

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا
 "اے مسلمانو! اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔" (القرآن)

کم علم خطباء و خطبہ کی زبانوں پر

100 مشہور ضعیف احادیث



جمع و ترتیب:

شیخ احسان بن محمد العتیبی حفظہ اللہ
 (تلمیذ البانی ح)

ترجمہ و تقدیم:

حافظ عمران ایوب لاہوری

فکر الہیہ پبلیکیشنز



نام کتاب

100 مشہور ضعیف احادیث

ترجمہ و تقدیم

حافظ عمران ایوب لاہوری حفظہ اللہ

جمع و ترتیب

شیخ الحدیث ابن حجر عسقلانی
(تلمیذ البانی ج)

مطبوعہ

علی آصف پرنٹرز لاہور

تاریخ اشاعت

اکتوبر ۲۰۰۵ء

فکر الہی پبلیکیشنز
لاہور (پاکستان)

Fiqh-ul-Hadith Publications

Mobile: 0300-4206199

E-mail: fiqhulhadith@yahoo.com

COPY RIGHT

All rights reserved

Exclusive rights by:

Fiqh-ul-Hadith Publications Lahore Pakistan. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means or stored in a data base retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا
 ”اے مسلمانو! اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔“ (القرآن)

کم علم خطبا و عظیمین کی زبانوں پر

100 مشہور ضعیف احادیث



جمع و ترتیب:

شیخ احسان محمد العتبی حفظہ اللہ
 (تلمیذ البانی ج)

ترجمہ و تقدیم:

حافظ عمران ایوب لاہوری حفظہ اللہ



ڈسٹری بیوٹر

نعمانی کتب خانہ

حق سٹریٹ اردو بازار لاہور (پاکستان)

فون: 042-7321865, 0333-4229127

ناشر

فکر کتب پبلیکیشنز

لاہور (پاکستان)



شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

خطبہ مستنونہ

﴿إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۲]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ۱]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ۷۰-۷۱]

﴿أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ
ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ﴾

”یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی
مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش مانگتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنی
بد اعمالیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے
کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ اپنے در سے دھکار دے اس کے لیے کوئی
رہبر نہیں ہو سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ معبودِ برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے وہ

اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر صرف اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔“

”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس جان سے اس کی بیوی کو بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیں اور انہیں (زمین پر) پھیلایا۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے ذریعے (یعنی جس کے نام پر) تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں (کو توڑنے) سے بچو۔ بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔“

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایسی بات کہو جو محکم (سیدھی اور سچی) ہو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔“

”حمد و صلاۃ کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد ﷺ کا ہے اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہیں جو (اللہ کے دین میں) اپنی طرف سے نکالے جائیں، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔“ (1)

(1) [صحیح : صحیح ابو داود (1860) کتاب النکاح : باب خطبة النکاح ، ابو داود

(2118) نسائی (104/3) حاکم (182/2) بیہقی (146/7) تمام المنة

(ص 334-335) ارواء الغلیل (608)]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو لوگوں تک دو طرح سے پہنچایا ہے؛ ایک قرآن کے ذریعے اور دوسرے حدیث کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین (یعنی قرآن و حدیث) کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں یہ وضاحت موجود ہے۔ اس لیے جس طرح قرآن من و عن محفوظ ہے اسی طرح حدیث بھی اپنی اصل صورت میں محفوظ ہے۔ ان دونوں کو اپنی حقیقت سے آج تک نہ کوئی مٹا سکا ہے اور نہ ہی کوئی قیامت تک مٹا سکے گا۔

تاہم اس سے مجال انکار نہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف بدطینت، کذاب، زنادقہ اور اسلام دشمن عناصر نے دین میں تحریف اور رخنہ اندازی کے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ایسی ایسی روایات گھڑیں کہ جن کا عہد رسالت میں کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ مگر چونکہ دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اس لیے اس نے ہر دور میں ایسے ثقہ علماء و محدثین کو پیدا فرمایا جنہوں نے کمال محنت اور عرق ریزی سے احادیث کے مجموعے سے ضعیف اور من گھڑت روایات کو الگ کر کے رکھ دیا اور سنت نبوی کو صحیح احادیث کے شفاف آئینے میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔

ان عظیم ہستیوں میں ایک نام دور حاضر کے محدث علامہ ناصر الدین البیہقیؒ

کا بھی ہے کہ جن کی علمی شخصیت اور کارہائے نمایاں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ انہوں نے جہاں مختلف علمی کتب تصنیف کی ہیں وہاں شانہ روزِ محنت سے متعدد کتب حدیث کی صحیح اور ضعیف روایات کو بھی الگ الگ کر دیا ہے۔ اسی تحقیقی سلسلے میں ان کے ایک شاگرد رشید ”شیخ احسان بن محمد العتیبی رحمۃ اللہ علیہ“ کی ایک تازہ کاوش آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

انہوں نے اس کتاب میں اُن 100 مشہور ضعیف اور من گھڑت احادیث کو یکجا کرنے کی سعی کی ہے؛ جنہیں ہمارے معاشرے کے جاہل خطباء اور واعظین اپنی تقریروں میں پر زور انداز میں بیان کرتے ہیں اور پھر عوام جس طرح سنتے ہیں اسی طرح ان پر عمل شروع کر دیتے ہیں جس سے بدعات کا ظہور ہوتا ہے، حالانکہ ان کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء و کذب بیانی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ یہ کتاب اس لحاظ سے نہایت مفید ہے کہ اس میں ذکر کردہ ضعیف احادیث کو ذہن نشین کرنا انتہائی آسان ہے کیونکہ مرتب رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث جمع کرتے ہوئے بغرض اختصار بے جا تفصیل سے بچتے ہوئے صرف متن حدیث اور حوالہ ہی نقل فرمایا ہے۔

راقم الحروف کو اللہ تعالیٰ نے اس مختصر عربی کتاب کا اردو ترجمہ کرنے کی توفیق بخشی؛ تو ترجمہ کے ساتھ ساتھ قارئین کے استفادے کے لیے ابتدائے کتاب میں مقدمہ کی صورت میں اُن ضروری معلومات کو بھی جمع کر دیا گیا ہے جو ضعیف اور من گھڑت احادیث سے متعلقہ تھیں۔ یہ مقدمہ ضعیف حدیث کی تعریف، ضعیف حدیث کی اقسام، احادیث گھڑنے کے اسباب، ضعیف حدیث کو ذکر کرنے کا حکم، ضعیف حدیث کو بیان کرنے کا طریقہ، ضعیف حدیث پر عمل کا حکم، ضعیف حدیث کی بنیاد پر دورِ حاضر میں مروج بدعات، ضعیف و موضوع احادیث سے بچنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسیبہ، ضعیف احادیث اور بدعات پر عمل سے ہم کیسے بچیں؟ وہ کتب جن میں ضعیف اور موضوع احادیث جمع کی گئی ہیں اور دیگر مفید معلومات پر مشتمل ہے۔ مقدمہ سے بھی پہلے

اُن ضروری اصطلاحات حدیث کو درج کر دیا گیا ہے جو علم حدیث سے واقفیت کے لیے اساس کی حیثیت رکھتی ہیں۔

یوں الحمد للہ یہ کتاب ہر عام و خاص کے لیے ضعیف حدیث کی معرفت معاشرے میں مشہور من گھڑت روایات کی پہچان اور بدعات سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ بن کر سامنے آئی ہے۔ یقینی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ دور حاضر میں یہ کتاب ہر مسلمان گھرانے کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے عوام کی اصلاح اور راقم کی فلاح کا ذریعہ بنائے۔ (آمین)

[رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ]

کتبہ

حافظ عمران ایوب لاہوری

تاریخ: 25 ستمبر 2005ء

فون: 0300-4206199

ای میل: hfzimran_ayub@yahoo.com

ضروری اہتمام:

اس کتاب کو کمپیوٹر پروگرام کی شکل میں سکین کرنے سے پہلے کتاب کے مترجم
حافظ عمران ایوب لاہوری حفظہ اللہ سے ای میل پر رابطہ کر کے حقوق حاصل
کیے گئے ہیں۔ لہذا اس کو صرف دعوتی مقصد کیلئے نشر کیا جائے...
آپ کی دعاؤں کا محتاج بندہ

فہرست

صفحہ نمبر	مضامین
18	چند ضروری اصطلاحات حدیث
21	مقدمہ از مترجم
21	حدیث کی تعریف
21	حدیث کی اقسام
22	ضعیف حدیث کی تعریف
23	ضعیف حدیث کی اقسام
25	ضعیف حدیث کی سب سے قبیح قسم
26	احادیث گھڑنے کے اسباب
26	① تقرب الی اللہ کی نیت
27	② اپنے مذہب کی تائید و تقویت
27	③ دین اسلام پر عیب لگانا
27	④ حکام وقت سے فریب ہونا
28	⑤ روایات کا بیان وسیلہ رزق بنالینا
28	⑥ شہرت طلبی
29	ضعیف حدیث کو ذکر کرنے کا حکم
32	ضعیف حدیث کو بیان کرنے کا طریقہ
33	ضعیف حدیث پر عمل کا حکم

صفحہ نمبر	مضامین
34	* کیا ضعیف حدیث سے استنباط ثابت ہوتا ہے؟
35	* ضعیف احادیث پر عمل درحقیقت بدعات کی ایجاد
35	* ضعیف احادیث کی بنیاد پر دور حاضر میں مروج چند بدعات
35	* ① یہ عقیدہ رکھنا کہ ساری دنیا کی تخلیق نبی ﷺ کے لیے ہوئی
36	* ② یہ عقیدہ رکھنا کہ سب سے پہلے نبی ﷺ کا نور پیدا ہوا
36	* ③ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر درود پڑھنے والے کی آواز نبی ﷺ کو پہنچتی ہے ...
37	* ④ یہ عقیدہ رکھنا کہ امت کے اعمال نبی ﷺ پر پیش کیے جاتے ہیں
37	* ⑤ وضوء کے دوران گردن کا مسح کرنا
38	* ⑥ وضوء کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اٹھانا
38	* ⑦ اذان کے دوران انگلیوں کے ساتھ آنکھیں چومنا
39	* ⑧ جمعہ کے روز والدین کی قبروں کی زیارت کا خاص اہتمام کرنا
39	* ⑨ قبروں پر سورہ فاتحہ کی قراءت کرنا
39	* ⑩ شب براءت کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا
40	* المل بدعت کا عبرتناک انجام
40	* ❁ بدعتی کا عمل قبول نہیں ہوتا
41	* ❁ بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی
41	* ❁ بدعتی کو پناہ دینے والا بھی لعنتی ہے
41	* ❁ بدعتی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے
42	* چند ضعیف و موضوع احادیث کے متعلق امام ابن تیمیہ کا بیان
48	* ضعیف و موضوع احادیث کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی صحیحہ
49	* ضعیف احادیث اور بدعات پر عمل سے ہم کیسے بچیں؟

صفحہ نمبر	مضامین
-----------	--------

- 50 * ضعیف احادیث کی پہچان کے سلسلہ میں شیخ محمد صالح المنجد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان
- 52 * وہ کتب جن میں ضعیف احادیث یکجا کرنے کی کوشش کی گئی ہے

100 مشہور ضعیف روایات

- 57 * بے حیائی اور برائی سے نذروکنے والی نماز نماز نہیں
- 57 * مسجد میں فضول گفتگو نیکیوں کو کھا جاتی ہے
- 58 * دنیا اور آخرت کے لیے عمل کی مثال
- 58 * رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر متقی کی خوش بختی کا محور
- 58 * رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بحیثیت معلم
- 59 * دنیا کی طرف اللہ کی وحی
- 59 * خوبصورت عورت سے بچ
- 59 * دو گروہوں کی درنگی پر پوری امت کی درنگی کی ضمانت
- 60 * میرے مرتبے کا وسیلہ پکڑو
- 60 * نماز کے لیے نکلنے وقت دعا کرنے سے ہزار فرشتوں کی استغفار
- 61 * امت محمدیہ تاقیامت خیر و بھلائی کا مرکز
- 61 * عصر کے بعد سونے سے عقل خراب ہو جانے کا اندیشہ
- 61 * بے وضو ہونے کے بعد وضو کرنے کی ترغیب
- 62 * حج کے دوران قبر نبوی کی زیارت کی ترغیب
- 62 * حج کے دوران قبر نبوی کی زیارت کی فضیلت
- 62 * امت کا اختلاف رحمت ہے
- 63 * کسی بھی صحابی کی اتباع ذریعہ ہدایت

صفحہ نمبر	مضامین
63	* نفس کی پہچان ہی رب کی پہچان ہے
63	* مجھے میرے رب نے ادب سکھایا
64	* مخلص لوگ بھی خطرے میں ہیں
64	* مومن کے جوٹھے میں شفا ہے
64	* خلیفہ مہدی کی آمد کی ایک علامت
65	* توبہ کرنے والے کی فضیلت
65	* نبی کریم ﷺ کو کوئی بات بلا مقصد نہیں بھلائی جاتی تھی
65	* لوگ مرنے کے بعد ہوش میں آئیں گے
66	* ہجی حدیث کی پہچان
66	* طلاق سے عرش کا نپ اٹھتا ہے
66	* بقدر درہم خون لگا ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے
66	* سخی کی فضیلت
67	* عربی زبان کی شان
67	* قرآن کا دل سورہ لیس
67	* فکر آخرت کی فضیلت
68	* مسجد کا پڑوسی گھر میں نماز ادا نہیں کر سکتا
68	* حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ
68	* روزے تندرستی کی ضمانت
69	* پڑوس کی حد
69	* کائنات کی تخلیق رسول اللہ ﷺ کے لیے
69	* سورہ واقعہ کی تلاوت سے فقر و فاقے کا خاتمہ

صفحہ نمبر	مضامین
69	* رضائے الہی اور اہل اسلام کے لیے فکر کرنے کی ترغیب
70	* جیسی عوام ویسا حکمران
70	* شب براءت میں گناہوں کی بخشش اور رزق کی فراخی
72	* نومولود کے کان میں اذان و اقامت کہنے کی فضیلت
73	* ایک سنت زعمہ کرنے سے سو شہیدوں کا اجر
73	* میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں
73	* قرآن، والدین اور علیؑ کو دیکھنا بھی عبادت ہے
74	* مسجد نبویؐ میں چالیس نمازوں کی فضیلت
74	* قرہی رشتہ دار نیکی کے زیادہ مستحق
74	* جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص
75	* بہترین نام
75	* طلب علم کے لیے چین تک جانے کا حکم
75	* عورتوں کی رائے کی مخالفت کرنے کا حکم
75	* روز قیامت لوگوں کو ماؤں کے ساتھ بلایا جائے گا
76	* حکمران زمین میں اللہ کا سایہ ہے
76	* اللہ سے ڈرنے والے اور نہ ڈرنے والے کا انجام
76	* اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونے والے کو دوسرا رب تلاش کرنے کا حکم
77	* فاسق کی غیبت نہیں ہوتی
77	* تدفین کے بعد مردے کو ہدایت
78	* استخارہ مشورہ اور میانہ روی اختیار کرنے والے کے لیے بشارت
78	* بال اور ناخن کاٹ کر نبی ﷺ دفن کرنے کے لیے جنت البقیع بھیجے

صفحہ نمبر	مضامین
79 مومن کی صفات * * *
79 ماہِ رمضان کی فضیلت * * *
80 جہنم کی کیفیت * * *
81 کثرتِ کلام کا نقصان * * *
81 اگلی صف پوری ہو چکی ہو تو کسی آدمی کو پیچھے کھینچنا * * *
82 اس امت میں تیس ابدال ہوں گے * * *
82 تمام صحابہ میں ابو بکر <small>رضی اللہ عنہ</small> کی فضیلت کی وجہ * * *
83 بیت اللہ میں طواف ہی تحیۃ المسجد ہے * * *
83 نماز میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے * * *
83 کیا اللہ تعالیٰ بھی سوتے ہیں؟ * * *
84 نظرِ شیطان کا ایک تیر ہے * * *
84 نکسیر پھوٹ پڑنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے * * *
85 ایمان کی حقیقت * * *
85 قیامت کی ایک علامت * * *
85 نبی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> اور ابو بکر <small>رضی اللہ عنہما</small> کے لیے مکڑی نے خار کے دروازے پر جال بن دیا۔ * * *
86 وضو ٹوٹ جانے پر وضو کرنے کا حکم * * *
86 پندرہ کام جنہیں اپنا لینے کے بعد امت آزمائش کا شکار ہو جائے گی * * *
88 دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ * * *
88 رزقِ حلال کمانا بھی جہاد ہے * * *
88 قرآن کی دہن سورہٴ رحمن ہے * * *
88 قوم کا سردار درحقیقت قوم کا خادم ہوتا ہے * * *

صفحہ نمبر	مضامین
89	* شہداء و قرآن میں شفاء ہے.....
89	* اُمیہ بن ابی الصلت کی حالت زار.....
89	* جیسا دین اختیار کرو گے ویسی ہی جزا دیئے جاؤ گے.....
89	* ملک الموت کا سامنا کرنا کتنا سخت ہے؟.....
90	* سات کاموں سے پہلے اعمال میں جلدی کرو.....
90	* فتویٰ جہنم میں لے جانے کا بھی باعث بن سکتا ہے.....
91	* مومن کی فراست سے بچ.....
91	* دنیاوی عیش و عشرت کے لیے مال جمع کرنے والا بے عقل ہے.....
91	* کھانے کے آخر میں پانی پینے کی ممانعت.....
91	* دلوں کے زنگ کا علاج.....
92	* جہاد اصغر سے جہاد کبیر کی طرف.....
92	* بلاوجہ چھوڑے گئے ایک روزے کی قضاء کبھی نہیں دی جاسکتی.....
92	* عبدالرحمن بن عوف <small>رضی اللہ عنہ</small> کا جنت میں داخل ہونے کا انداز.....
92	* طلاق اللہ تعالیٰ کی مبعوض ترین چیز.....
93	* نبی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی مدینہ تشریف آوری پر عورتوں اور بچوں کے اشعار.....
93	* حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے.....
94	* حکمرانوں کے ہاتھوں ملنے والی سزا درحقیقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے... ..
94	* نومولود کے کان میں اذان و اقامت.....
95	* دانائی کا زیادہ مستحق کون؟.....

چند ضروری اصطلاحات حدیث

حدیث	ایسا قول، فعل اور تقریر جس کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف کی گئی ہو۔ سنت کی بھی یہی تعریف ہے۔ یاد رہے کہ تقریر سے مراد آپ ﷺ کی طرف سے کسی کام کی اجازت ہے۔
خبر	خبر کے متعلق تین اقوال ہیں۔ (1) خبر حدیث کا ہی دوسرا نام ہے۔ (2) خبر حدیث وہ ہے جو نبی ﷺ سے منقول ہو اور خبر وہ ہے جو کسی اور سے منقول ہو۔ (3) خبر حدیث سے عام ہے یعنی اس روایت کو بھی کہتے ہیں جو نبی ﷺ سے منقول ہو اور اس کو بھی کہتے ہیں جو کسی اور سے منقول ہو۔
آثار	ایسے اقوال اور افعال جو صحابہ کرام اور تابعین کی طرف منقول ہوں۔
متواتر	وہ حدیث جسے بیان کرنے والے راویوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہو جانا عقلاً محال ہو۔
آحاد	خبر واحد کی جمع ہے۔ اس سے مراد ایسی حدیث ہے جس کے راویوں کی تعداد متواتر حدیث کے راویوں سے کم ہو۔
مرفوع	جس حدیث کو نبی ﷺ کی طرف منسوب کیا گیا ہو خواہ اس کی سند متصل ہو یا نہ۔
موقوف	جس حدیث کو صحابی کی طرف منسوب کیا گیا ہو خواہ اس کی سند متصل ہو یا نہ۔
مقطوع	جس حدیث کو تابعی یا اس سے کم درجے کے کسی شخص کی طرف منسوب کیا گیا ہو خواہ اس کی سند متصل ہو یا نہ۔
صحیح	جس حدیث کی سند متصل ہو اور اس کے تمام راوی ثقہ دیانت دار اور قوت حافظہ کے مالک ہوں۔ نیز اس حدیث میں شدوذا اور کوئی خفیہ خرابی بھی نہ ہو۔

حسن	جس حدیث کے راوی حافظے کے اعتبار سے صحیح حدیث کے راویوں سے کم درجے کے ہوں۔
ضعیف	ایسی حدیث جس میں نہ تو صحیح حدیث کی صفات پائی جائیں اور نہ ہی حسن حدیث کی۔
موضوع	ضعیف حدیث کی وہ قسم جس میں کسی من گھڑت خبر کو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔
شاذ	ضعیف حدیث کی وہ قسم جس میں ایک ثقہ راوی نے اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کی ہو۔
مرسل	ضعیف حدیث کی وہ قسم جس میں کوئی تابعی صحابی کے واسطے کے بغیر رسول اللہ ﷺ سے روایت کرے۔
معلق	ضعیف حدیث کی وہ قسم جس میں ابتدائے سند سے ایک یا سارے راوی ساقط ہوں۔
معطل	ضعیف حدیث کی وہ قسم جس کی سند کے درمیان سے اکٹھے دو یا دو سے زیادہ راوی ساقط ہوں۔
منقطع	ضعیف حدیث کی وہ قسم جس کی سند کسی بھی وجہ سے منقطع ہو یعنی متصل نہ ہو۔
متروک	ضعیف حدیث کی وہ قسم جس کے کسی راوی پر جھوٹ کی تہمت ہو۔
منکر	ضعیف حدیث کی وہ قسم جس کا کوئی راوی فاسق بدعتی بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا یا بہت زیادہ غفلت برتنے والا ہو۔
علت	علم حدیث میں علت سے مراد ایسا خفیہ سبب ہے جو حدیث کی صحت کو نقصان پہنچاتا ہو اور اسے صرف فن حدیث کے ماہر علماء ہی سمجھتے ہوں۔

صحیحین	صحیح احادیث کی دو کتابیں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔
صحاح ستہ	معروف حدیث کی چھ کتب یعنی بخاری، مسلم، ابوداؤد ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔
جامع	حدیث کی وہ کتاب جس میں مکمل اسلامی معلومات مثلاً عقائد، عبادات، معاملات، تفسیر، سیرت، مناقب، فتن اور روز محشر کے احوال وغیرہ سب کچھ جمع کر دیا گیا ہو۔
اطراف	وہ کتاب جس میں ہر حدیث کا ایسا حصہ لکھا گیا ہو جو باقی حدیث پر دلالت کرتا ہو مثلاً تحفۃ الأشراف از امام مزنی وغیرہ۔
اجزاء	اجزاء جز کی جمع ہے۔ اور جزء اس چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک خاص موضوع سے متعلق بالاستیعاب احادیث جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہو مثلاً جزء رفع الیدین از امام بخاری وغیرہ۔
اربعین	حدیث کی وہ کتاب جس میں کسی بھی موضوع سے متعلق چالیس احادیث ہوں۔
سنن	حدیث کی وہ کتب جن میں صرف احکام کی احادیث جمع کی گئی ہوں مثلاً سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد وغیرہ۔
مسند	حدیث کی وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی احادیث کو الگ الگ جمع کیا گیا ہو مثلاً مسند شافعی وغیرہ۔
مستدرک	ایسی کتاب جس میں کسی محدث کی شرائط کے مطابق ان احادیث کو جمع کیا گیا ہو جنہیں اس محدث نے اپنی کتاب میں نقل نہیں کیا مثلاً مستدرک حاکم وغیرہ۔
مستخرج	ایسی کتاب جس میں مصنف نے کسی دوسری کتاب کی احادیث کو اپنی سند سے روایت کیا ہو مثلاً مستخرج ابونعیم الاصبہانی وغیرہ۔
معجم	ایسی کتاب جس میں مصنف نے اپنے اساتذہ کے ناموں کی ترتیب سے احادیث جمع کی ہوں مثلاً معجم کبیر از طبرانی وغیرہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ از مترجم

حدیث کی تعریف (1)

لغوی اعتبار سے لفظ حدیث کا معنی ہے ”کسی چیز کا نیا اور جدید ہونا۔“ اس کی جمع خلاف قیاس ”احادیث“ آتی ہے۔ جبکہ اصطلاحی طور پر حدیث کی تعریف یہ ہے:

((كُلُّ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ))

”ہر وہ قول، فعل اور تقریر (2) یا صفت جو نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب ہو، اسے حدیث کہتے ہیں۔“

حدیث کی اقسام

صحت و ضعف کے لحاظ سے حدیث کی دو قسمیں ہیں:

① مقبول ② غیر مقبول

(1) واضح رہے کہ حدیث سے متعلقہ مذکورہ اکثر و بیشتر تعریفات و معلومات اصطلاحات حدیث پر مشتمل ڈاکٹر محمود طمان کی کتاب ”تیسرے مصطلح الحدیث“ جو دینی مدارس کالجز اور یونیورسٹیز کے نصاب میں بھی شامل ہے، سے لی گئی ہیں۔ طوالت سے بچنے کے لیے اور کلام کو عام فہم بنانے کے لیے صرف ایک معروف و محترم کتاب کو ہی ترجیح دی گئی ہے، البتہ جہاں بقدر ضرورت دیگر کتب سے استفادہ کیا گیا ہے وہاں ان کا حوالہ بھی نقل کر دیا گیا ہے۔

(2) [تقریر سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں کوئی کام ہوا ہو اور آپ ﷺ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، اس کی حدیث کو ”تقریری حدیث“ کہتے ہیں۔]

مقبول سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں صدق کا پہلو راجح اور غالب ہو۔ اس نوع کا حکم یہ ہے کہ یہ شریعت میں حجت ہیں اور ان پر عمل واجب ہے اور غیر مقبول سے مراد وہ روایات ہیں جن میں صدق اور راجح کا پہلو غالب نہ ہو۔ ایسی روایات کا حکم یہ ہے کہ یہ حجت نہیں ہوتیں اور نہ ہی ان پر عمل واجب ہوتا ہے۔

چونکہ ہمارا موضوع یہی غیر مقبول یعنی ضعیف و مردود روایت سے ہی متعلق ہے اس لیے آئندہ سطور میں اسی کے متعلق بالاختصار ذکر کیا جائے گا۔

ضعیف حدیث کی تعریف

لغوی اعتبار سے لفظ ضعیف قوی و طاقتور کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے۔ جو حسی اور معنوی دونوں کیفیتوں کو شامل ہوتا ہے لیکن یہاں صرف معنوی ضعف ہی مراد ہے۔ اصطلاحی طور پر ضعیف حدیث کی تعریف اہل علم نے ان الفاظ میں کی ہے:

((كُلُّ حَدِيثٍ لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ صِفَاتُ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَلَا صِفَاتُ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ))

”ہر وہ حدیث جس میں نہ تو صحیح حدیث کی صفات موجود ہوں اور نہ ہی حسن حدیث کی۔“ (1)

صحیح حدیث کی صفات و شروط یہ ہیں کہ اس کے تمام راوی عادل و ضابط ہوں اور وہ اپنے ہی جیسے عادل و ضابط راویوں سے نقل کریں اور یہ کیفیت سند کے شروع سے آخر تک قائم رہے نیز اس میں کوئی شد و ذی یا مخفی علت بھی نہ ہو۔ حسن حدیث کی صفات یہ ہیں کہ ایسی حدیث جس کے راوی عادل مگر حافظے کے اعتبار سے صحیح حدیث کے راویوں سے کچھ کم

(1) [تدریب الراوی للسهوطی (179/1) شرح مسلم للنووی (19/1) مقلعة تحفة الأحوذی (ص 199) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ص 108)]

درجے کے ہوں اور سند آخر تک متصل ہو اور وہ شاذ یا معلول بھی نہ ہو۔ صحیح حدیث کی ایک قسم صحیح لغیرہ ہے جو درحقیقت مذکورہ حسن حدیث ہی ہوتی ہے مگر وہ مزید اس جیسی یا اس سے قوی تر اسناد کے ذریعے بھی منقول ہوتی ہے۔ اسی طرح حسن حدیث کی ایک قسم حسن لغیرہ بھی ہے جو اصل میں ضعیف روایت ہی ہوتی ہے، مگر ایک تو وہ کئی سندوں سے ثابت ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ اس کے ضعف کا باعث راوی کا فسق یا کذب نہیں ہوتا۔ مختصر لفظوں میں حسن لغیرہ وہ ضعیف حدیث ہے جو مزید ایک یا زیادہ سندوں سے ثابت ہو اور یہ دوسری سند بھی اسی جیسی یا اس سے قوی تر ہو۔ نیز اس حدیث کے ضعف کا سبب اس کے راوی کے حفظ کی خرابی یا سند میں انقطاع یا اس کے راویوں کی جہالت سے متعلق ہو۔

مذکورہ بالا صحیح اور حسن حدیث کے متعلق کچھ تفصیل نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قارئین کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ کون کون سی صفات و شرائط موجود ہوں تو حدیث صحیح یا حسن درجہ کی ہوتی ہے اور کون سی صفات موجود نہ ہوں تو حدیث ضعیف و مردود ہوتی ہے۔

ضعیف حدیث کی اقسام

ضعیف حدیث کو اہل علم نے صحیح حدیث کی مختلف شرائط مفقود ہونے کے اعتبار سے مختلف انواع و اقسام میں تقسیم کیا ہے، جن کا اجمالاً ذکر حسب ذیل ہے:

✽ اگر سند متصل نہ ہو تو ضعیف حدیث کو چار انواع میں تقسیم کیا جاتا ہے:

① مُعَلَّق: وہ حدیث جس کی سند کی ابتداء سے ایک یا زیادہ راوی اکٹھے ہی حذف کر دیئے گئے ہوں۔

② مُرْتَمِل: وہ حدیث جس کی سند کے آخر سے تابعی کے بعد والا راوی ساقط ہو۔

③ مُغْضَل: وہ حدیث جس کی سند میں سے دو یا زیادہ راوی یکے بعد دیگرے ایک

ہی جگہ سے ساقط ہوں۔

④ مُنْقَطِعٌ: وہ حدیث جس کی سند کسی بھی وجہ سے متصل نہ ہو۔

⑤ مُدَلَّسٌ: وہ حدیث جس میں کسی راوی نے سند کے عیب کو چھپا کر اس کی تحسین کو ظاہر کیا ہو۔

❁ اگر راوی عادل نہ ہوں تو ضعیف حدیث کو تین انواع میں تقسیم کیا جاتا ہے:

① مَوْضُوعٌ: وہ جمہوری، من گھڑت اور خود ساختہ بات جسے رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔

② مَتْرُوكٌ: وہ حدیث جس کے کسی راوی پر جھوٹ کی تہمت کا طعن ہو۔

③ مُنْكَرٌ: وہ حدیث جس کے کسی راوی میں فاش اغلاط یا انتہائی غفلت یا فسق کا ظہور ہو۔

❁ اگر راوی کا حافظہ صحیح نہ ہو تو ضعیف حدیث کو چار انواع میں تقسیم کیا جاتا ہے:

① مُدْرَجٌ: وہ حدیث جس کی سند کا سیاق بدل دیا گیا ہو یا بغیر کسی وضاحت کے اس کے متن میں کوئی اضافی بات داخل کر دی گئی ہو۔

② مَقْلُوبٌ: وہ حدیث جس کی سند یا متن کے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ بدل دیا گیا ہو یا ان میں تقدیم و تاخیر کر دی گئی ہو۔

③ مُضْطَرِبٌ: وہ حدیث مختلف اسالیب و اسانید سے مروی ہو جبکہ وہ قوت میں بھی مساوی ہوں۔

④ مُصَحَّفٌ: وہ حدیث جس میں ثقہ راویوں کے بیان کردہ الفاظ کے برعکس ایسے الفاظ بیان کیے گئے ہوں جو لفظی یا معنوی طور پر مختلف ہوں۔

❁ اگر کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو ضعیف حدیث کی ایک ہی قسم بتائی جاتی ہے:

① مِثْلًا: وہ حدیث جسے کوئی مقبول راوی اپنے سے زیادہ افضل و اوّلیٰ راوی کی مخالفت میں بیان کرے۔

❁ اگر حدیث میں کوئی خفیہ علت موجود ہو تو بھی ضعیف حدیث کی ایک ہی قسم بتائی جاتی ہے:

① مُعَلَّلٌ: وہ حدیث جس میں کوئی ایسی تخیلی علت پائی جائے جو اس کے صحیح ہونے پر اثر انداز ہوتی ہو جبکہ ظاہری طور پر وہ صحیح و سالم معلوم ہوتی ہو۔

ضعیف حدیث کی سب سے قبیح قسم

ضعیف حدیث کی اقسام میں سے سب سے بری اور قبیح قسم ”موضوع“ ہے۔ بعض اہل علم نے تو اسے ایک مستقل قسم قرار دیا ہے اور اسے ضعیف حدیث کی اقسام میں شمار ہی نہیں کیا۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ جان بوجھ کر موضوع روایت کو اس کی حقیقت ذکر کیے بغیر ہی بیان کر دینا حرام ہے کیونکہ ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان موجود ہے:

﴿مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ﴾

”جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔“ (1)

ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان موجود ہے:

﴿مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ﴾

”جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو

(1) [بخاری (107) کتاب العلم: باب اثم من كذب على النبي ﷺ، مسلم (3)

مقدمة: باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ، احمد (8784) ابن أبي شيبة

وہ خود جھوٹوں میں سے ایک ہے۔“ (1)

ایک اور حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿ لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلْجُ النَّارَ ﴾

”مجھ پر جھوٹ نہ بانڈھو کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ بانڈھتا ہے وہ آگ میں داخل ہوگا۔“ (2)

احادیث گھڑنے کے اسباب

جن اسباب و وجوہ کی بنا پر احادیث گھڑی گئیں ان میں سے چند ایک کا بالا اختصار

ذکر حسب ذیل ہے:

① تقرب الی اللہ کی نیت:

احادیث گھڑنے والا اپنی دانست میں لوگوں کو نیکی اور خیر کی ترغیب دینے کا حریص ہوتا ہے یا انہیں منکرات سے روکنا چاہتا ہے اور کچھ باتیں بنا کر احادیث کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ ایسے لوگ بالعموم بظاہر زاہد اور صوفی منش سے ہوتے ہیں اور یہ سب سے بدترین احادیث گھڑنے والے شمار ہوتے ہیں۔ کیونکہ لوگ ان کے ظاہری زہد و تقویٰ کے باعث ان کی باتوں کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں، مثلاً میسرۃ بن عبد ربیع۔ امام ابن حبانؒ اپنی

(1) [مسلم: مقدمۃ: باب وجوب الروایۃ عن الثقات وترك الکذابين والتحذیر من

الکذب علی رسول اللہ، ترمذی (2662) کتاب العلم: باب ما جاء فیمن روى

حدیثا وهو یرى أنه کذب، ابن ماجہ (41) مقدمۃ: باب من حدث عن رسول اللہ

حدیثا وهو یرى أنه کذب، احمد (20242) ابن حبان (29) طیالسی (38/1) ابن

ابی شیبہ (595/8)]

(2) [مسلم (1) مقدمۃ: باب تغلیظ الکذب علی رسول اللہ، بخاری (106) کتاب

العلم: باب اثم من کذب علی النبی، ترمذی (2660) کتاب العلم: باب ما جاء فی

تعظیم الکذب علی رسول اللہ، ابن ماجہ (31) مقدمۃ: باب التغلیظ فی تعدد

الکذب علی رسول اللہ، أبو یعلیٰ (613) طیالسی (107)]

”کِتَابُ الضَّعْفَاءِ“ میں ابن مہدی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے میسرہ سے پوچھا ‘آپ یہ احادیث کہاں سے لاتے ہیں کہ اگر کوئی فلاں فلاں چیز پڑھے تو اس کے لیے یہ یہ اجر و ثواب ہے وغیرہ۔ تو اس نے جواب دیا کہ یہ باتیں میری اپنی خود ساختہ ہوتی ہیں۔ میں اس طرح لوگوں کو خیر اور نیکی کی طرف راغب کرتا ہوں۔ (1)

② اپنے مذہب کی تائید و تقویت:

سیاسی و مذہبی فرقوں کے ظہور کے بعد مثلاً خوارج اور شیعہ وغیرہ ہر گروہ کے لوگوں نے اپنے مذہب کی تائید و تقویت کے لیے احادیث وضع کیں۔ مثلاً یہ روایت کہ ”علی بنی بشر میں سب سے افضل ہیں اور جو اس میں شک کرے وہ کافر ہے۔“

③ دین اسلام پر عیب لگانا:

زندیق لوگ جب اسلام میں کسی اور طرح علی الاعلان رختہ اندازی سے عاجز رہے تو خفیہ طور پر انہوں نے یہ راہ اپنائی اور پھر بہت ہی کمروہ اور ناپسندیدہ باتیں احادیث و روایات کی شکل میں لوگوں کے اندر پھیلا دیں۔ پھر ان ہی کی بنیاد پر اسلام کو بدنام کرنے لگے۔ مثلاً محمد بن سعید شامی ایک معروف زندیق تھا۔ اس کے ان کمروہ افعال کی بنا پر ہی اسے سولی پر لٹکایا گیا اور (پھر وہ) ”الْمَضْلُوبُ“ کہلایا۔ اس کی (گھڑی ہوئی) ایک روایت اس طرح ہے جو وہ انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ذکر کرتا تھا ”میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں الا کہ اللہ چاہے۔“ (2)

④ حکام وقت سے قریب ہونا:

بعض کمزور ایمان والے لوگ حکام وقت کی خواہشات کی مناسبت سے کچھ روایات

(1) [تدریب الراوی (282/1) بحوالہ تیسرے مصطلح الحدیث]

(2) [تدریب الراوی (284/1) بحوالہ تیسرے مصطلح الحدیث]

گھڑ کے ان کے سامنے بیان کرتے اور انہیں خوش کر کے ان کے ہاں اپنا مرتبہ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلاً غیاث بن ابراہیم نخعی کوئی، اس کا مشہور واقعہ یہ ہے کہ جو امیر المؤمنین مہدی عباسی کے ہاں پیش آیا۔ یہ شخص جب خلیفہ کے ہاں گیا تو دیکھا کہ وہ کبوتروں سے کھیل رہا ہے۔ اس نے جاتے ہی اپنی سند سے رسول اللہ ﷺ تک ایک خود ساختہ حدیث سنائی جس کا مضمون یوں تھا:

”آپ ﷺ نے فرمایا، مقابلہ صرف نیزہ بازی، اونٹ دوڑ، گھڑ دوڑ اور

پرندوں (کبوتروں وغیرہ) میں ہی جائز ہے۔“

غیاث نے مذکورہ روایت میں جناح (یعنی پرندوں کے پر یا کبوتر وغیرہ) کے الفاظ اپنی طرف سے بڑھادیئے تھے کہ خلیفہ خوش ہو جائے۔ مگر مہدی کو اس خود ساختہ اضافہ کا علم ہو گیا تو اس نے کبوتروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ”میں نے ہی اس شخص کو یہ خود ساختہ الفاظ فرمان رسول میں اضافہ کرنے پر ابھارا ہے۔“

⑤ روایات کا بیان وسیلہ رزق بنالینا:

بعض نام نہاد واعظ اور قصہ گو قسم کے لوگ عوام میں بے سرو پا روایات بیان کرتے جن میں عجیب سا تجسس ہوتا اور اس طرح وہ چاہتے کہ لوگ ان کی محفلوں میں بیٹھیں اور نذرانے پیش کریں۔ ابوسعید المدائنی کا نام اسی صف میں شامل ہے۔

⑥ شہرت طلبی:

بعض لوگ ایسی ایسی عجیب و غریب روایات بیان کرتے کہ یہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں یا وہ سندیں تبدیل کر دیتے تاکہ لوگ ان کی طرف راغب اور مائل ہوں اور انہیں شہرت ملے۔ مثلاً ابن ابی دجیہ اور حماد اللصیبی۔ (1)

ضعیف حدیث کو ذکر کرنے کا حکم

ضعیف حدیث کو ذکر کرنا جائز نہیں البتہ اسے صرف اس صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ضعف کو بھی ساتھ ہی بیان کیا جائے۔ تاکہ سامعین یا قارئین کو علم ہو جائے کہ یہ بات رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب تو کی گئی ہے مگر ثابت نہیں۔ کیونکہ اگر ضعیف حدیث کو اس کا ضعف بیان کیے بغیر ہی آگے نقل کر دیا گیا تو یقیناً ایک طرف یہ رسول اللہ ﷺ پر افتراء ہوگا اور دوسری طرف لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ جو قطعاً جائز نہیں جیسا کہ گزشتہ عنوان کے تحت اس کے دلائل ذکر کر دیئے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ ضعیف حدیث کو آگے بیان کرنے والا دو حالتوں سے خالی نہیں:

① اسے حدیث کے ضعف کا علم ہو ② اسے یہ علم نہ ہو

اگر اسے حدیث کے ضعف ہونے کا علم تھا اور اس نے پھر بھی اسے اس کا ضعف واضح کیے بغیر آگے بیان کر دیا تو لازماً اس پر رسول اللہ ﷺ کی بیان کردہ یہ وعید صادق آئے گی:

”جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو

وہ خود جھوٹوں میں سے ایک ہے۔“ (1)

اور اگر اسے حدیث کے ضعف ہونے کا علم ہی نہیں تھا تو پھر بھی وہ رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کی وجہ سے گناہگار ضرور ہوگا:

﴿كَفَى بِالْمُرءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ﴾

”آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو سنے اسے آگے بیان کر دے۔“ (2)

(1) [ترمذی (2662)]

(2) [مسلم (5) مقلعہ، ابو داؤد (4992) کتاب الأدب: باب فی التشدید فی الکذب،

ابن ابی شیبہ (595/8) ابن حبان (30) حاکم (381/1)]

اس حدیث پر امام مسلمؒ نے یہ عنوان قائم کیا ہے:

((بَابُ : النَّهْيُ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ))

”ہر وہ بات جسے انسان سنے (بلا تحقیق) اسے آگے بیان کرنا منع ہے۔“

ثابت ہوا کہ جو شخص کسی حدیث کی صحت و ضعف کا علم نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ بلا تحقیق اسے آگے بیان نہ کرے۔ نیز جب عام معاملات کے لیے شریعت میں تحقیق کا حکم دیا گیا ہے اور عدالت و دیانت کا اعتبار کیا گیا ہے تو دین کے معاملے میں بالاولیٰ تحقیق و عدالت کو ملحوظ رکھنا چاہیے جیسا کہ یہ حکم درج ذیل دلائل سے ثابت ہوتا ہے:

① ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا

بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَتَدَبَّرُونَ﴾ [الحجرات: 6]

”اے مسلمانو! اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا

کر دیا، نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔“

② ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: 2]

”اور اپنے (لوگوں) میں سے دو دیانت دار گواہ مقرر کر لو۔“

③ ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

وَأَمْرًا تَكَانِ مِمَّن رَّضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ﴾ [البقرة: 282]

”اپنے میں سے دو مرد گواہ مقرر کر لو! اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں

جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو (یعنی جن کی نیکی و تقویٰ اور دیانت کا

تمہیں یقین ہو)۔“

④ ﴿لَا يَنْكَاحُ إِلَّا بَوْلَىٰ وَشَاهِدَىٰ عَدْلٍ﴾

”ولیٰ کی اجازت اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔“ (1)

امام ابو شامہؒ فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث کو ذکر کرنا جائز نہیں ہاں صرف اس صورت میں جائز ہے کہ اس کا ضعف بھی بیان کیا جائے۔ محدث العصر علامہ ناصر الدین البانیؒ نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے۔ (1)

امام مسلمؒ فرماتے ہیں کہ

جو شخص ضعیف حدیث کا ضعف جانتا ہے اور پھر اسے بیان نہیں کرتا تو وہ ایسا کرنے کی وجہ سے گناہگار بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے۔ کیونکہ یہ امکان موجود ہے کہ اس کی بیان کردہ احادیث کو سننے والا ان سب پر یا ان میں سے بعض پر عمل کرے اور یہ بھی امکان موجود ہے کہ وہ ساری احادیث یا ان میں سے کچھ احادیث جھوٹی ہوں اور ان کی کوئی اصل ہی نہ ہو۔ حالانکہ صحیح احادیث ہی تعداد میں اس قدر ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ضعیف احادیث کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ پھر بہت سے لوگ محض اس لیے جان بوجھ کر ضعیف اور مجہول اسناد والی احادیث بیان کرتے ہیں کہ عوام میں ان کی شہرت ہو اور یہ کہا جائے کہ ان کے پاس بہت زیادہ احادیث ہیں اور اس نے بہت سی کتابیں تالیف کی ہیں جو شخص علم کے معاملے میں اس روش کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے علم میں کچھ حصہ نہیں اور اسے عالم کہنے کی بجائے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے۔ (2)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث بیان کرتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے جب تک تحقیق و تدقیق کے ذریعے کسی حدیث کی صحت کے بارے میں کامل یقین نہ ہو جائے اسے آگے بیان نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر کہیں ضعیف یا موضوع روایت کو بیان کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو وہاں ساتھ ہی اس کی حالت بھی واضح کر دینی چاہیے کہ یہ ضعیف ہے یا موضوع۔

(1) [تمام المنہ (ص 32) الباعث علی انکار البدع والحوادث (ص 54)]

(2) [مقدمہ صحیح مسلم]

ضعیف حدیث کو بیان کرنے کا طریقہ

ضعیف حدیث کو بیان کرتے وقت صراحت کے ساتھ اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، بلکہ غیر واضح اور غیر پختہ الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس طرح روایت کیا جاتا ہے یا اس طرح نقل کیا جاتا ہے یا ہمیں آپ ﷺ سے اس طرح پہنچا ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی حدیث کا ضعف واضح ہو جانے کے بعد صراحت کے ساتھ اسے رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کرنا کسی طرح درست نہیں۔

شیخ البانیؒ فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث کے متعلق یہ نہ کہا جائے کہ آپ ﷺ نے فرمایا، یا آپ ﷺ سے وارد ہے، یا اس طرح کے دیگر (پختہ) الفاظ (استعمال نہ کیے جائیں)۔

مزید نقل فرماتے ہیں کہ امام نوویؒ نے فرمایا:

اہل حدیث اور دیگر اہل علم میں سے محققین علماء نے کہا ہے کہ جب کوئی حدیث ضعیف ہو تو اس میں یوں نہ کہا جائے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، یا آپ ﷺ نے یہ فعل کیا، یا آپ ﷺ نے حکم دیا، یا آپ ﷺ نے منع کیا، یا آپ ﷺ نے فیصلہ کیا اور جو بھی اس کے مشابہ پختہ طور پر بات ذکر کرنے کے صیغے ہیں (ان کے ساتھ ضعیف حدیث بیان نہ کی جائے)۔ اسی طرح ضعیف حدیث بیان کرتے ہوئے یہ بھی نہ کہا جائے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، یا انہوں نے فرمایا، یا انہوں نے ذکر کیا اور جو بھی اس کے مشابہ الفاظ ہیں اور اسی طرح تابعین اور ان کے بعد والوں (یعنی تبع تابعین) کے لیے بھی ضعیف حدیث بیان کرتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔

بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ ﷺ سے روایت کیا گیا ہے، یا آپ ﷺ سے نقل کیا گیا ہے، یا آپ ﷺ سے حکایت کیا گیا ہے، یا ذکر کیا جاتا ہے، یا حکایت کیا جاتا ہے، یا روایت

کیا جاتا ہے اور جو بھی ان کے مشابہ غیر پختہ اور غیر مضبوط بات کرنے کے صیغے ہیں (ضعیف روایت کو بیان کرتے وقت انہیں استعمال کیا جائے.....)۔

امام نوویؒ کا مفصل قول نقل کرنے کے بعد شیخ البانیؒ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات شرعاً مسلم ہے کہ حسب امکان لوگوں کو اسی طرح کی بات کے ساتھ مخاطب کرنا چاہیے جسے وہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ محققین کی مذکورہ اصطلاح کو اکثر لوگ نہیں جانتے لہذا وہ سنت کے علم میں کم مشغول رہنے کی وجہ سے کسی کہنے والے کے اس قول کہ ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا“ اور اس قول کہ ”رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا گیا“ کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ وہم دور کرنے کے لیے (حدیث بیان کرتے وقت) حدیث کی صحت یا ضعف کی وضاحت کر دینا ہی ضروری ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے:

﴿ دَعُ مَا يُرِيكَ إِلَى مَا لَا يُرِيكَ ﴾

”شک و شبہ والی بات کو چھوڑ کر ایسی بات کو اپناؤ جس میں شک و شبہ نہ ہو۔“

اسے نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کی ارواء الغلیل [2074] وغیرہ

میں تخریج کی گئی ہے۔ (1)

ضعیف حدیث پر عمل کا حکم

ضعیف احادیث پر عمل کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ فضائل اعمال میں ان پر عمل مستحب ہے مگر اس کے لیے تین شرطیں ہیں۔ جیسا کہ حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے:

① اس کا ضعف شدید نہ ہو۔

- ② وہ حدیث کسی معمول بہ اور ثابت شدہ اصل کے ضمن میں آتی ہو۔
- ③ عمل کرتے ہوئے اس کے سنت ہونے کا اعتقاد نہ رکھا جائے بلکہ احتیاط کی نیت سے عمل کیا جائے۔

تاہم امت کے کبار محقق علماء و محدثین کا موقف یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر نہ تو احکام میں عمل جائز ہے اور نہ ہی فضائل اعمال میں۔ ان عظیم المرتبت اہل علم میں امام یحییٰ بن معینؒ، امام بخاریؒ، امام مسلمؒ، امام ابن العربیؒ، امام ابن حزمؒ، امام ابوشامہ مقدسیؒ، امام ابن تیمیہؒ، امام شاطبیؒ، علامہ شوکانیؒ اور خطیب بغدادیؒ قابل ذکر ہیں۔ (1)

علامہ ناصر الدین البانیؒ نے بھی اسی موقف کو برحق قرار دیا ہے کہ فضائل اعمال میں بھی ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ بلاشبہ ضعیف حدیث مر جوح ظن کا فائدہ دیتی ہے اور اس پر عمل بالاتفاق جائز نہیں۔ لہذا جو شخص ضعیف حدیث پر عمل (کے اس عدم جواز) سے فضائل کو خارج کرتا ہے (اس پر) ضروری ہے کہ دلیل پیش کرے (جبکہ ایسی کوئی دلیل بھی موجود نہیں)۔ (2)

یہی رائے زیادہ باعث احتیاط معلوم ہوتی ہے۔ (واللہ اعلم)

کیا ضعیف حدیث سے استحباب ثابت ہوتا ہے؟

ضعیف حدیث سے استحباب ثابت نہیں ہوتا کیونکہ استحباب پانچ امور شرعیہ میں سے ایک ہے اور کوئی بھی شرعی امر صرف اسی صورت میں ثابت ہو سکتا ہے جب کہ اس کے اثبات کے لیے کوئی ایسی حدیث موجود ہو جس کی استنادی حیثیت قابل تسلیم ہو اور بلا تردد ضعیف حدیث اس حیثیت کی حامل نہیں۔

(1) [مزید دیکھئے: ضعیف حدیث کی معرفت، از غازی عزہر (ص 148)]

(2) [ملخصاً، تمام المنہ (ص 34)]

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔⁽¹⁾ نیز محدث العصر علامہ ناصر الدین البانیؒ فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کی مشروعیت کا اثبات جائز نہیں کیونکہ مشروعیت کا قلیل درجہ استحباب ہوتا ہے جو کہ احکامِ خمسہ میں سے ایک حکم ہے اور کوئی حکم شرعی کسی صحیح دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔⁽²⁾

ضعیف احادیث پر عمل درحقیقت بدعات کی ایجاد

فضائل اور ترغیب و ترہیب میں ضعیف احادیث کو بیان کرنے اور ان پر عمل کو مستحب قرار دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدعات و خرافات کی ابتدا ہوئی۔ لوگوں نے کم علم خطباء سے ضعف کی وضاحت کے بغیر ضعیف احادیث سنیں اور ان پر عمل شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ عمل ایسا پختہ ہوا کہ لوگوں نے اسی کو دین سمجھ لیا اور یہ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ آیا جو عمل ہم دین سمجھ کر اختیار کیے بیٹھے ہیں اس کی بنیاد کتاب و سنت ہے یا ضعیف و من گھڑت روایات ہیں۔ پھر آنے والی نسلوں نے جس طرح اپنے اکابرین کو ان بدعات پر عمل کرتے ہوئے دیکھا اسی طرح خود بھی انہیں اپنا لیا اور صحیح احادیث کے مقابلے میں اپنے بڑوں کے عمل کو ہی برحق سمجھا۔ نتیجہً لوگوں کے عقائد و اعمال ضعیف اور من گھڑت احادیث کی بھینٹ چڑھ گئے۔

ضعیف احادیث کی بنیاد پر دور حاضر میں مروج چند بدعات

① یہ عقیدہ رکھنا کہ ساری دنیا کی تخلیق نبی ﷺ کے لیے ہوئی:

اس عقیدے کی بنیاد یہ من گھڑت روایت ہے:

﴿لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ﴾

(1) [مجموع الفتاوى لابن تيمية (65/18)]

(2) [أحكام الحناظر للألباني (ص 153)]

”(اے پیغمبر!) اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات پیدا نہ کرتا۔“ (1)

① یہ عقیدہ رکھنا کہ سب سے پہلے نبی ﷺ کا نور پیدا ہوا:

اس عقیدے کی بنیاد یہ باطل و موضوع روایت ہے:

﴿أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ!﴾

”اے جابر! اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ تیرے نبی کا نور تھا۔“

شیخ البانی نے اس روایت کو باطل قرار دیا ہے۔ نیز یہ روایت اس صحیح روایت

کے بھی خلاف ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نور سے جس مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے وہ

صرف فرشتے ہی ہیں۔ (2)

② یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر درود پڑھنے والے کی آواز نبی ﷺ کو پہنچتی ہے:

اس بدی عقیدے کی بنیاد یہ ضعیف روایت ہے:

﴿أَكثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ

الْمَلَائِكَةُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا بَلَغَنِي صَوْتُهُ حَيْثُ كَانَ، فَلَنَا

: وَبَعْدَ وَفَاتِكَ؟ قَالَ: وَبَعْدَ وَفَاتِي، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضِ

أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ﴾

”جمع کے روز مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ بلاشبہ یہ ایسا دن ہے

جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو آدمی بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی

آواز مجھے پہنچ جاتی ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ (صحابہ کہتے ہیں) ہم نے

عرض کیا، آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا،

میری وفات کے بعد بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں

(1) [موضوع: السلسلة الضعيفة (282)]

(2) [مزید کیجئے: السلسلة الصحيحة (458)]

کو کھانا حرام کر دیا ہے۔“ (1)

④ یہ عقیدہ رکھنا کہ امت کے اعمال نبی ﷺ پر پیش کیے جاتے ہیں:

اس عقیدے کی بنیاد مختلف ضعیف روایات ہیں جن میں سے ایک یہ ہے:

﴿إِنَّ أَعْمَالَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ﴾

”ہر جمعہ کو مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔“ (2)

⑤ وضوء کے دوران گردن کا مسح کرنا:

اس عمل کی بنیاد چند ضعیف روایات ہیں جن میں سے ایک یہ ہے:

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل مرفوع روایت میں یہ لفظ ہیں

﴿مَسَحَ رَقَبَتَهُ﴾ ”آپ ﷺ نے (وضوء کرتے ہوئے) اپنی گردن کا مسح کیا۔“ (3)

اسی طرح ایک دوسری من گھڑت روایت یوں ہے:

(1) [ضعیف: امام عراقی نے اس روایت کے متعلق کہا ہے کہ اس کی سند صحیح نہیں۔ القول البدیع

فی الصلاة علی الحبيب الشفیع (ص 159) اس کی سند صحیح نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس

میں سعید بن ابی مریم اور خالد بن یزید کے درمیان انقطاع ہے۔ [تہذیب التہذیب

(178/2)]

(2) [ضعیف: حلیۃ الأولیاء (179/6) کنز الأعمال (318/5) یہ روایت اس لیے ضعیف

ہے کیونکہ اس کی سند میں دو راوی مجروح ہیں: ایک احمد بن حنبل بن ماہان الرازی اور دوسرا عباد

بن کثیر بصری۔ [میزان الاعتدال (128/1) الکامل (124/2)]

(3) [کشف الاستار للبخاری (140/1) یہ روایت تین راویوں کی بنا پر ضعیف ہے۔ ① (محمد بن حجر)

امام بخاری نے اسے محل نظر کہا ہے اور امام ڈہبی نے کہا ہے کہ اس کے لیے مناکیر ہیں۔ ②

(سعید بن عبد الجبار) امام نسائی نے اسے غیر قوی کہا ہے۔ ③ (ابن ترکمانی) بیان کرتے ہیں

کہ مجھے اس کے حال اور نام کا کچھ علم نہیں۔ [میزان الاعتدال (511/3) (147/2)

الحوہر النقی ذیل السنن الکبری للبیہقی (30/2)]

﴿ مَسْحُ رَقَبَةِ أَمَانَ مِنَ الْعُلِّ ﴾

”گردن کا مسح (روز قیامت) طوق سے بچنے کا ذریعہ ہے۔“ (1)

① وضوء کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اٹھانا:

یہ عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں اسی لیے علماء نے اسے بدعات میں شمار کیا ہے۔

نیز جس روایت میں آسمان کی طرف دیکھنے کا ذکر ہے اس میں ابن عمیر اور ابی عقیل راوی مجہول ہے اس لیے وہ ضعیف ہے۔ (2)

② اذان کے دوران انگوٹھوں کے ساتھ آنکھیں چومنا:

اس عمل کی بنیاد وہ روایت ہے جس میں مذکور ہے کہ

”جس شخص نے مؤذن کے یہ کلمات ”أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“

سن کر کہا ”مَرْحَبًا بِحَبِيبِي وَفَرَّةَ عَيْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ“ پھر

اپنے انگوٹھوں کا بوسہ لے کر انہیں اپنی آنکھوں پر لگایا، وہ کبھی آنکھ کی تکلیف

میں مبتلا نہیں ہوگا۔“

یہ روایت ضعیف ہے۔ (3)

اسی طرح ایک دوسری ضعیف روایت میں مذکور ہے کہ جو شخص اس طرح کرے گا

اسے محمد ﷺ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ (4)

(1) [موضوع: السلسلة الضعيفة (69)]

(2) [ضعيف: ضعيف ابو داود (31) كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل اذا توضأ، ابو

داود (170) ابن السنن (31) احمد (150/4) حافظ ابن حجر نے اسے ضعیف کہا

ہے۔ [تلخیص الحبير (130/1)]

(3) [السلسلة الضعيفة (73) امام طاوہی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس سے

کچھ بھی مرفوع ثابت نہیں۔]

(4) [السلسلة الضعيفة (73)]

⑤ جمعہ کے روز والدین کی قبروں کی زیارت کا خاص اہتمام کرنا:

اس عمل کی بنیاد یہ من گھڑت روایت ہے:

﴿مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِيهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بِرًا﴾

”جس شخص نے ہر جمعہ کے روز اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کی اس کے گناہ

بخش دیئے جائیں گے اور اسے نیکو کار لکھ دیا جائے گا۔“ (1)

⑥ قبروں پر سورہ یس کی قراءت کرنا:

اس عمل کی بنیاد جن من گھڑت اور ضعیف روایات پر ہے ان میں سے ایک یہ ہے:

﴿مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ يَسِ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَانَ لَهُمْ

بَعْدُ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ﴾

”جو قبرستان میں داخل ہو اور اس نے سورہ یس کی قراءت کی تو اللہ تعالیٰ ان

(قبر والوں سے آزمائش میں) تخفیف فرمائیں گے اور اسے (یس پڑھنے

والے کو) اس قبرستان میں مدفون افراد کی تعداد کے برابر نیکیاں ملیں گی۔“

شیخ البانیؒ نے اپنی کتاب ”احکام الجنائز وبعدها“ (ص 325) میں اس

روایت کے متعلق نقل فرمایا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ

یہ روایت من گھڑت ہے۔ (2)

⑦ شب براءت کی رات عبادت کے لیے خاص کرنا:

اس عمل کی بنیاد وہ ضعیف روایت ہے جس میں مذکور ہے کہ

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ پندرہ (15) شعبان کی رات کو پہلے آسمان کی جانب اترتے

(1) [موضوع: السلسلة الضعيفة (49) ضعيف الجامع الصغير (5605)]

(2) [موضوع: السلسلة الضعيفة (1246)]

ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ افراد کو بخش دیتے ہیں۔“ (1)
 ○ واضح رہے کہ شب براءت کی فضیلت میں بیان کی جانے والی مزید ضعیف احادیث
 کو آئندہ 41 نمبر حدیث کے تحت جمع کر دیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

اہل بدعت کا عبرتناک انجام

❖ بدعتی کا عمل قبول نہیں ہوتا:

① ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ
 ”(اے پیغمبر!) کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ
 خسارے میں کون ہے؟ (فرمایا) وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بے کار ہو گئیں
 اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔“ [الکھف : 103-104]
 ② حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ﴿مَنْ أَحَدَثَ فِي أُمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ﴾
 ”جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو
 وہ قابل رد ہے۔“ (2)

③ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ﴾
 ”جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے۔“ (3)

(1) [ضعیف : ضعیف ترمذی، ترمذی (739) ضعیف ابن ماجہ، ابن ماجہ (1389)]

(2) [صحیح : صحیح الجامع الصغیر (5970) غایۃ المرام (5) صحیح ابو داؤد، ابو

داؤد (4606) کتاب السنۃ : باب فی لزوم السنۃ، ابن ماجہ (14) مقلدۃ : باب

تعظیم حدیث رسول اللہ]

(3) [صحیح : صحیح الجامع الصغیر (6398) ارواء الغلیل (88) صحیح الترغیب

(49) کتاب السنۃ : باب الترهیب من ترک السنۃ]

❖ بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ حَبَبَ التَّوْبَةِ عَنْ كُلِّ صَاحِبٍ بِذَعَةٍ حَتَّى يَذَعَ﴾

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بھی بدعتی کی توبہ قبول نہیں فرماتے جب تک

وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے۔“ (1)

❖ بدعتی کو پناہ دینے والا بھی لعنتی ہے:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُخَدَّنًا﴾

”اللہ اس پر لعنت کرے جو کسی بدعتی کو پناہ دے۔“ (2)

❖ بدعتی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے:

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿إِنِّي فَرَطْتُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مِنْ مَرِّ عَلِيٍّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ

يَظْمَأْ أَبَدًا، كَيْرِدَنْ عَلَى أَقْوَامٍ أَعْرَفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَ

بَيْنَهُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيَقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَتْوَا بَعْدَكَ،

فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيْرَ بَعْدِي﴾

”میں اپنے حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود رہوں گا۔ جو شخص بھی میری طرف

(1) [صحيح : صحيح الترغيب (54) كتاب السنة : باب الترهيب من ترك السنة

وارتكاب البدع والأهواء ، ظلال الحنة (37) حجة النبي (ص / 101) رواه الطبراني

والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة]

(2) [صحيح : صحيح نسائي ، نسائي (4422) كتاب الضحايا : باب من ذبح لغير الله

تعالى ، صحيح الجامع الصغير (5112) الأدب المفرد (17)]

سے گزرے گا وہ اس کا پانی پئے گا اور جو اس کا پانی پئے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور وہاں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پچھانوں گا اور وہ مجھے پچھانیں گے لیکن پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو مجھ سے ہیں (یعنی میرے امتی ہیں)۔ تو آپ ﷺ سے کہا جائے گا، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لیں تھیں۔ اس پر میں (محمد ﷺ) کہوں گا دور ہو وہ شخص جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی تھی۔“ (1)

چند ضعیف و موضوع احادیث کے متعلق امام ابن تیمیہ کا بیان

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ سے اس حدیث ”میں نہ تو اپنے آسمان میں ساسکا اور نہ ہی اپنی زمین میں لیکن اپنے مومن بندے کے دل میں سا گیا“ کے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا:

یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے جس کی نبی کریم ﷺ سے کوئی معروف سند نہیں ملتی اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں میری محبت اور معرفت رکھ دی گئی ہے۔

اور یہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ:

”رب کا گھر دل ہے۔“

یہ بھی پہلی روایت کی جنس سے ہے اور اسرائیلی روایت ہے، دل تو اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کی معرفت اور محبت کی جگہ ہے۔ اور یہ بھی روایت کرتے ہیں:

”میں ایک غیر معروف خزانہ تھا میں نے چاہا کہ معروف ہو جاؤں تو میں

(1) [بخاری (6583) کتاب الرقاق: باب فی الحوض، ابن ماجہ (3057) نسائی

(2087) ترمذی (2433) صحیح الجامع الصغیر (7027)]

نے مخلوق پیدا کی، میں نے انہیں اپنی وجہ سے اور انہوں نے مجھے میری وجہ سے جاتا۔“

یہ کلام نبوی نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی صحیح یا ضعیف سند ہی میرے علم میں ہے۔ اور یہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ نے عقل پیدا فرمائی تو اسے کہا کہ ادھر آ جاؤ تو وہ آگئی، پھر اسے کہا کہ واپس چلی جاؤ تو وہ واپس چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھے میری عزت و جلال کی قسم! میں نے تجھ سے زیادہ شان والی کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں فرمائی، میں تیری وجہ سے پکڑ کروں گا اور تیری وجہ سے عطا کروں گا۔“

یہ حدیث محدثین کے ہاں بالاتفاق من گھڑت اور باطل ہے۔ اور جو یہ حدیث روایت کی جاتی ہے کہ:

”دنیا سے محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔“

یہ جندب بن عبد اللہ بخلی کا قول معروف ہے، لیکن نبی کریم ﷺ سے اس کی کوئی سند معروف نہیں۔ یہ بھی روایت کیا جاتا ہے:

”دنیا مومن کا قدم (چلنے میں دو قدم کا فاصلہ) ہے۔“

یہ کلام نہ تو نبی کریم ﷺ اور نہ ہی سلف صالحین وغیرہ میں سے کسی سے معروف ہے۔ اور یہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ:

”جس کسی کے لیے کسی چیز میں برکت کر دی گئی تو وہ اس کا التزام کرے“ اور

”جس نے کسی چیز کو اپنے لیے لازم کر لیا وہ اسے لازم ہو جائے گی۔“

پہلا کلام تو بعض سلف سے ماثور ہے اور دوسرا باطل ہے اس لیے کہ جس نے بھی اپنے لیے کسی چیز کو لازم کیا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کبھی لازم ہوگی اور کبھی لازم نہیں ہو سکتی۔ اور نبی ﷺ سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے:

”فقراء کے ساتھ مل کر قوت حاصل کرو کیونکہ کل انہیں غلبہ حاصل ہوگا اور اس

کے علاوہ اور کون سا غلبہ ہے۔“

”فقیری میرا فخر ہے جس پر میں فخر کرتا ہوں۔“

یہ دونوں روایات جھوٹی ہیں، مسلمانوں کی معروف کتب میں سے کسی میں بھی نہیں

پائی جاتیں۔ نبی ﷺ سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے:

”میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔“

محدثین کے ہاں یہ حدیث ضعیف بلکہ موضوع درجے کی ہے، لیکن اسے ترمذی

وغیرہ نے روایت کیا ہے، اس کا وقوع تو ہے لیکن ہے کذب بیانی۔ نبی ﷺ سے یہ بھی

بیان کیا جاتا ہے کہ:

”قیامت کے روز فقراء کو بٹھا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مجھے میری عزت و جلال

کی قسم! میں نے دنیا کو تم سے اس لیے دور نہیں کیا تھا کہ تم میرے نزدیک حقیر

تھے، لیکن میں نے یہ کام آج کے دن تمہاری قدر و منزلت بڑھانے کے لیے

کیا، میدان محشر میں جاؤ جہاں لوگ کھڑے ہیں، ان میں سے جس نے بھی

تمہیں کوئی روٹی کا ٹکڑا دے کر یا پھر پانی پلا کر یا پھر کپڑا پہنا کر احسان کیا

اسے جنت میں لے جاؤ۔“

شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اہل علم اور محدثین میں سے کسی نے بھی اسے

روایت نہیں کیا بلکہ یہ باطل اور کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی بیان

کرتے ہیں کہ:

”جب نبی کریم ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو بنو نجار کی بچیاں

دفنیں لے کر نکلیں اور وہ یہ اشعار پڑھ رہی تھیں: ہم پر مٹیۃ الوداع سے

چودھویں کا چاند طلوع ہوا ہے..... شعروں کے آخر تک، تو رسول اللہ ﷺ نے

انہیں فرمایا، اپنی دفنوں کو حرکت دو اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔“

خوشی و سرور کے وقت عورتوں کا دفن بجانا صحیح ہے، نبی کریم ﷺ کے دور میں یہ کام کیا جاتا تھا، لیکن یہ قول کہ ”دفنوں کو حرکت دو اور انہیں ہلاؤ“ نبی کریم ﷺ سے ثابت نہیں۔ اور یہ روایت بھی آپ ﷺ سے بیان کی جاتی ہے کہ:

”اے اللہ! تو نے مجھے میری سب سے محبوب جگہ سے نکالا ہے تو مجھے اپنی سب سے محبوب جگہ میں رہائش عطا فرما۔“

یہ حدیث بھی باطل ہے، ترمذی وغیرہ نے اسے روایت کیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے تو (مدینہ کے بجائے) مکہ کو یہ کہا تھا کہ یقیناً تو میرے نزدیک احب البلاد یعنی شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تو اللہ کے ہاں بھی احب البلاد ہے۔ نبی کریم ﷺ کے متعلق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے:

”جس نے میری اور میرے باپ کی ایک ہی سال میں زیارت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

یہ جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے، اہل علم میں سے کسی نے بھی اسے روایت نہیں کیا۔ علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے:

”ایک دیہاتی نے نماز پڑھی اور ٹھونگے مارے یعنی اس میں جلدی کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے کہنے لگے نماز میں جلدی نہ کر، تو وہ دیہاتی کہنے لگا، اے علی! اگر یہ ٹھونگے تیرا باپ بھی مار لیتا تو وہ آگ میں داخل نہ ہوتا۔“

یہ بھی کذب اور جھوٹ ہے اور جو یہ بیان کرتے ہیں کہ:

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔“

یہ بھی کذب و جھوٹ ہے اس لیے کہ ان کا والد تو نبی کریم ﷺ کی بعثت سے قبل ہی فوت ہو چکا تھا۔ اور نبی کریم ﷺ کے متعلق یہ بھی روایت بیان کی جاتی ہے:

”جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے تو میں نبی تھا اور میں اس

وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام نہ پانی میں تھے اور نہ ہی مٹی میں۔“

یہ الفاظ بھی باطل ہیں۔ اور یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے:

”غیر شادی شدہ کا بستر آگ ہے، آدمی عورت کے بغیر اور عورت آدمی کے

بغیر مسکین ہے۔“

اس کلام کا ثبوت نبی کریم ﷺ سے نہیں ملتا۔ اور یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ:

”جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تو اس کے ہر کونے میں ایک ہزار رکعت نماز

پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ: اے ابراہیم! یہ کیا ہے، بھوک مٹائی جا رہی

ہے یا کہ پردہ پوشی؟“

یہ بھی ظاہری کذب و جھوٹ ہے، اس کا مسلمانوں کی کتب میں وجود تک نہیں ملتا۔ اور

ایک یہ روایت بھی بیان کرتے ہیں:

”فتنے کو کراہت کی نظر سے نہ دیکھا کرو کیونکہ اس میں منافقوں کی جڑ کاٹی جاتی ہے۔“

یہ روایت نبی کریم ﷺ سے ثابت اور معروف نہیں۔ اور یہ روایت بھی نبی کریم ﷺ

سے بیان کرتے ہیں:

”میں نے اپنی امت کے گناہ دیکھے تو سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ کسی نے آیت

یکسی اور اسے بھلا دیا، یہ سب سے بڑا گناہ تھا۔“

اگر یہ حدیث صحیح ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے آیت یکسی پھر اس کی تلاوت کرنا

بھول گیا۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں:

”میری امت کے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے

قرآن مجید کی آیات دیں تو وہ اس سے سو گیا حتیٰ کہ وہ اسے بھول گئیں۔“

تو نسیانِ اعراض کے معنی میں ہے کہ اس نے قرآن مجید سے اعراض کر لیا، اس پر

ایمان نہ لایا اور عمل بھی نہ کیا، لیکن اسے پڑھنے میں سستی کرنا ایک گناہ ہے۔ اور یہ بھی روایت کیا جاتا ہے:

”قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جو محمد اور آل محمد سے بھی بہتر ہے‘
قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے مخلوق نہیں، کسی دوسرے سے تشبیہ
نہیں دی جائے گی۔“

مذکورہ الفاظ ثابت اور ماثور نہیں ہیں۔ اور نبی ﷺ سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے:
”جس نے علم نافع حاصل کیا اور اسے مسلمانوں سے چھپایا تو اللہ تعالیٰ اسے
قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائے گا۔“

سنن میں اس معنی کی حدیث معروف ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جس سے کسی
علم کا سوال کیا گیا اور وہ اس کا علم رکھتے ہوئے بھی چھپائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے
آگ کی لگام ڈالے گا۔“ نبی ﷺ سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے:

”جب تم میرے صحابہ میں پیدا شدہ اختلاف تک پہنچو تو وہیں رک جاؤ اور کچھ
نہ کہو اور جب قضاء و قدر کے مسئلہ میں آؤ تو پھر بھی خاموشی اختیار کر لو۔“
یہ روایت منقطع اسناد کے ساتھ معروف ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے:

”نبی کریم ﷺ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اور وہ دو دو انگور کھا رہے تھے۔“
اس روایت میں دو دو کا کلمہ نبی ﷺ کا کلام نہیں بلکہ یہ باطل ہے۔ اور نبی کریم ﷺ
سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے:

”جس نے کسی عورت سے زنا کیا اور اس سے بیٹی پیدا ہوئی تو زانی اپنی زانی کا
بیٹی سے شادی کر سکتا ہے۔“

یہ قول بعض غیر شافعیوں کا ہے اور بعض نے اسے امام شافعی سے نقل کیا ہے، کچھ شافعی
مسک کے حاملین اس کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ: اس کی حلت کی تصریح نہیں کی

لیکن رضاعت میں اس کی صراحت کی ہے مثلاً:

جب بچی نے زنا کے حمل والی عورت کا دودھ پیا اور عام علماء یعنی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس کی حرمت پر متفق ہیں اور امام مالک کا بھی صحیح قول یہی ہے۔ اور یہ روایت بھی پیش کی جاتی ہے:

”سب سے حق اور اچھی اجرت کتاب اللہ پر اجرت لینا ہے۔“

ہاں یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی اجرت کتاب اللہ کی ہے لیکن یہ بات دم کے متعلق حدیث میں ہے اور یہ معاوضہ اس قوم کے مریض کی عافیت اور صحیح ہونے پر تھا نہ کہ تلاوت کرنے پر۔ اور جو یہ روایت بیان کی جاتی ہے:

”جس کسی نے ذمی پر ظلم کیا اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ جھگڑا کرے گا یا میں

قیامت کے دن اس کا مقدمہ لڑوں گا۔“

یہ روایت ضعیف ہے لیکن یہ معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی معاہد کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے:

”جس کسی نے مسجد میں چراغ جلایا تو جب تک مسجد میں اس کی روشنی رہے گی

فرشتے اور عرش اٹھانے والے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔“

میرے علم کے مطابق اس روایت کی کوئی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ (1)

ضعیف و موضوع احادیث کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ذَجَالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُم مِّنْ

الْأَحَادِيثُ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ ﴿

”آخری زمانہ میں دجال اور کذاب ہوں گے وہ تمہارے سامنے ایسی ایسی احادیث پیش کریں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے۔ لہذا اپنے آپ کو ان سے بچائے رکھنا“ (کہیں ایسا نہ ہو کہ) وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنے میں ڈال دیں۔“ (1)

اس فرمان نبوی کی رو سے آج ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے خود کو بھی ضعیف و من گھڑت احادیث پر عمل سے بچائے اور دوسروں کو بھی ان سے روکنے کی کوشش کرے۔

ضعیف احادیث اور بدعات پر عمل سے ہم کیسے بچیں؟

اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ کسی بھی خطیب یا واعظ کے بیان کردہ مسئلے کو بلا دلیل اور بلا حوالہ قبول نہ کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ ہم اپنے اندر دینی مسائل کی تحقیق کا شوق پیدا کریں، خود کتاب و سنت، صحیح احادیث کی کتب (مثلاً بخاری و مسلم وغیرہ) اور دیگر دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، علوم اسلامیہ کے حصول کے لیے وقت نکالیں، جہاں کسی بات کی سمجھ نہ آئے یا کسی اختلافی مسئلے میں کچھ بھائی نہ دے تو صرف ایک ہی علاقائی عالم پر اعتماد کیے بغیر مختلف مکاتب فکر کے علماء سے استفسار کریں، ان سے ان کے بیان کردہ موقف کے دلائل طلب کریں، پھر ان کے دلائل کو کتاب و سنت، صحیح احادیث اور محدثین کے مقرر کردہ اصول حدیث پر پرکھیں، پھر جس کی رائے اقرب الی الحق معلوم ہو اسے مضبوطی سے پکڑ لیں، لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اگر اس کے بعد پھر کبھی معلوم ہو کہ یہ موقف بھی درست نہیں تھا

(1) [مسلم (7) مقلمة: باب النهی عن الروایة عن الضعفاء والاحتیاط فی تحملها]

بلکہ کوئی اور موقف برحق تھا تو فوراً اپنا قدیم موقف چھوڑ کر درست موقف اپنائیں۔

ہمیں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جب ہم دنیاوی اشیاء حاصل کرنے کے لیے تحقیق کرتے ہیں کہ فلاں چیز کیسی ہے، کہاں سے ملے گی، مناسب قیمت پر کہاں سے میسر آئے گی، کون سی چیز زیادہ پائیدار ہے وغیرہ وغیرہ؟ اس کے لیے لوگوں سے پوچھتے ہیں، مختلف بازاروں میں پھرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، تو ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ صحیح دینی معلومات بغیر ہماری محنت و کوشش کے اور بغیر تحقیق و تفتیش کے از خود ہمارے گھروں تک پہنچ جائیں گی۔ حالانکہ دینی معاملات دنیاوی معاملات سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ان کا تعلق اس ہمیشہ کی زندگی سے ہے جہاں اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو وہ ہمیشہ ناز و نعم میں رہے گا اور جو ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ عذابوں سے دوچار رہے گا، وہاں موت بھی نہیں آئے گی کہ خلاصی کا سامان فراہم کر سکے۔

اس لیے دنیاوی اشیاء سے کہیں زیادہ ہمیں مسائل شرعیہ کو جاننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کمزور اور من گھڑت آیات کی معرفت عطا فرمائے، بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، سیدھے راستے کی ہدایت دے اور موت تک اسی پر قائم رکھے۔ (آمین یا رب العالمین!)

ضعیف احادیث کی پہچان کے سلسلہ میں شیخ محمد صالح المنجد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان

کسی نے دریافت کیا کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، لیکن ہم آج یہ یقین کیسے کریں کہ موجودہ احادیث تبدیل شدہ یا جھوٹی نہیں؟ گزارش ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں میں احادیث کو نہ تو صحیح کہتا ہوں اور نہ ہی کسی حال میں غلط کہتا ہوں، لیکن کچھ مسلمانوں نے جتنی بھی احادیث مجھے بیان کیں وہ سب کی سب ضعیف اور موضوع تھیں، میں حسب استطاعت احادیث پر عمل کرتا ہوں آپ سے

گزارش ہے کہ اس موضوع میں معلومات دے کر تعاون کریں؟

شیخ نے جواب دیا کہ

① اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے اور اسی ضمن میں کتاب اللہ کی حفاظت بھی ایک معجزہ ہے اور اس کے ساتھ سنت نبوی ہے جو کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں معاون ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان کچھ اس طرح ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]

”بلاشبہ ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن و سنت ہیں کیونکہ یہ دونوں کو شامل ہوتا ہے۔

② بہت سے لوگوں نے ماضی اور حاضر میں یہ کوشش کی کہ شریعت مطہرہ اور احادیث نبویہ میں ضعیف اور موضوع احادیث داخل کی جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دی اور ایسے اسباب مہیا کر دیئے جس سے اپنے دین کی حفاظت فرمائی، انہی اسباب میں سے ثقہ علمائے کرام کی جماعت ہے جنہوں نے روایات احادیث کی چھان پھینک کی، ان کے مصادر کا پیچھا کیا اور راویوں کے حالات کا پتہ چلایا۔

حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ راوی کو اختلاط کب ہو اور اختلاط سے قبل اس سے کس نے روایت کی اور اختلاط کے بعد کس نے روایت بیان کی، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ راوی نے سفر کہاں اور کتنے کیے اور کس کس ملک اور شہر میں داخل ہوئے اور وہاں کس کس سے احادیث حاصل کیں، تو اس طرح یہ ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے جس کا شمار ممکن نہیں، یہ سب کچھ اس پر دلالت کرتا ہے کہ دشمنان اسلام جتنی بھی تحریف و تبدیل کی کوشش کر لیں پھر بھی یہ امت اپنے دین کی حفاظت کرتی ہے اور دین محفوظ ہے۔

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے:

”فرشتے آسمان کے پہرے دار ہیں اور اہل حدیث زمین کے پہرے دار ہیں۔“

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے:

ہارون الرشید ایک زندیق کو قتل کرنے لگا تو اس بے دین نے کہا، اس ایک ہزار حدیث کا کیا کرو گے جو میں نے گھڑی ہیں، تو ہارون الرشید کہنے لگا: اے اللہ کے دشمن تو کہاں پھر رہا ہے ابو اسحاق فزاری اور عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہما اس کی چھان پھلک کر کے حرف نکال دیں گے۔

طالب علم احادیث کی اسانید اور کتب رجال اور جرح و تعدیل سے راویوں کے حالات دیکھتے ہوئے آسانی و سہولت ضعیف اور موضوع احادیث کو پہچان سکتا ہے۔

③ بہت سارے علماء نے ضعیف اور موضوع احادیث کو ایک جگہ پر بھی جمع کر دیا ہے (جیسا کہ اگلے عنوان کے تحت ان کا ذکر آ رہا ہے۔ راقم) تاکہ انسان کو اس کی پہچان میں آسانی رہے اور وہ ضعیف اور موضوع احادیث سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرے۔

④ اور جس طرح سائل کا یہ کہنا ہے کہ وہ ضعیف اور موضوع احادیث سنتا ہے، تو الحمد للہ اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ وہ صحیح، ضعیف اور موضوع میں تمیز کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو کہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کرتا ہے، اس کے متعلق اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔

⑤ ہم سائل کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ جرح و تعدیل اور مصطلح الحدیث کی کتب کا مطالعہ کرے تاکہ اسے سنت نبویہ میں کی گئی خدمت کی معرفت ہو، اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے۔

وہ کتب جن میں ضعیف احادیث یکجا کرنے کی کوشش کی گئی ہے

- 2- ضعيف الجامع الصغير للألبانى
- 3- ضعيف الترغيب والترهيب للألبانى
- 4- ضعيف أبو داود للألبانى
- 5- ضعيف ترمذى للألبانى
- 6- ضعيف نسائى للألبانى
- 7- ضعيف ابن ماجه للألبانى
- 8- الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعية للشوكانى
- 9- الأسرار المرفوعة فى الأحاديث الموضوعية لابن عراق
- 10- اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعية للسيوطى
- 11- العلل المتناهية لابن جوزى
- 12- كتاب الموضوعات لابن جوزى
- 13- المنار المنيف لابن القيم

﴿ بقلم : حافظ عمران ايوب لاهورى ﴾

100 مشہور

ضعیف احادیث

ارشاد نبوی ہے کہ

”آخری زمانہ میں دجال اور کذاب ہوں گے وہ
تمہارے سامنے ایسی ایسی احادیث پیش کریں گے جو نہ کبھی تم
نے سنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے۔ لہذا اپنے آپ کو
ان سے بچائے رکھنا (کہیں ایسا نہ ہو کہ) وہ تمہیں گمراہ کر دیں
اور حقے میں ڈال دیں۔“

[مسلم (7)]

100 مشہور ضعیف روایات

بے حیائی اور برائی سے نہ روکنے والی نماز نماز نہیں

(1) ﴿مَنْ لَمْ تَنْهَ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ﴾
 ”جس کی نماز اسے بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی اس کی کوئی نماز نہیں۔“
 ایک روایت میں یہ لفظ ہیں:

﴿مَنْ لَمْ تَنْهَ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، لَمْ يَزِدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدًا﴾
 ”جس کی نماز اسے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکتی وہ
 صرف اللہ سے دوری میں ہی اضافہ کرتا ہے۔“

مسجد میں فضول گفتگو کرنا نیکیوں کو کھا جاتی ہے

(2) ﴿الْحَدِيثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهَائِمُ
 الْحَشِيشَ﴾
 ”مسجد میں (فضول) گفتگو کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے مویشی
 گھاس کو کھا جاتے ہیں۔“

اور ایک دوسری روایت میں یہ لفظ ہیں:

﴿الْحَدِيثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ﴾

(1) [باطل: امام ذہبی نے کہا کہ ابن جنید نے کہا ہے یہ کذب و افتراء ہے۔ حافظ عراقی نے کہا کہ
 اس کی سند کمزور ہے۔ شیخ البانی نے کہا کہ یہ روایت باطل ہے نہ تو سند کے اعتبار سے ثابت ہے
 اور نہ ہی متن کے اعتبار سے۔ [میزان الاعتدال (293/3) تحفہ الاحیاء (143/1)]

”مسجد میں باتیں کرنا حسنت کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔“

دینا اور آخرت کے لیے عمل کی مثال

(3) ﴿ اَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا ، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا ﴾

”اپنی دنیا کے لیے یوں عمل کرو گویا تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور اپنی آخرت کے لیے یوں عمل کرو گویا تم کل ہی فوت ہو جاؤ گے۔“

رسول اللہ ﷺ ہر متقی کی خوش بختی کا محور

(4) ﴿ اَنَا جَدُّ كُلِّ تَقِيٍّ ﴾

”میں ہر متقی کی خوش بختی کا محور ہوں۔“

رسول اللہ ﷺ کی بعثت بحیثیت معلم

(5) ﴿ إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ﴾

”مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔“

(2) [حافظ عراقی] نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی اصل نہیں ملی۔ امام عبدالوہاب ابن تقی الدین اسکتی نے کہا کہ میں نے اس کی کسی سند کو نہیں پایا۔ شیخ البانی نے فرمایا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ [تخریج

الاحیاء (136/1) طبقات الشافعية للسبكي (145/4) السلسلة الضعيفة (4)]

(3) [شیخ البانی] نے کہا ہے کہ یہ روایت مرفوعاً ثابت نہیں یعنی یہ ثابت نہیں کہ یہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے۔ [الضعيفة (8)]

(4) [امام سیوطی] نے کہا ہے کہ میں اس روایت کو نہیں جانتا۔ شیخ البانی نے کہا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ [الحاوی للسیوطی (89/2) السلسلة الضعيفة (9)]

(5) [حافظ عراقی] نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ شیخ البانی نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔ [تخریج

الاحیاء (11/1) السلسلة الضعيفة (11)]

دنیا کی طرف اللہ کی وحی

(6) ﴿أَوْحَى اللَّهُ إِلَى الدُّنْيَا أَنْ اخْلِدِي مِنْ خَدَمِي وَأَتَّبِعِي مَنْ خَدَمَكَ﴾
 ”اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف وحی کی کہ جس نے میری خدمت کی تو اس کی خدمت کر
 اور جس نے تیری خدمت کی تو اسے تھکا دے۔“

خوبصورت عورت سے بچو

(7) ﴿إِيَّاكُمْ وَخَضِرَاءَ الدِّمِينِ فَقِيلَ: مَا خَضِرَاءُ الدِّمِينِ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ
 الْحَسَنَاءُ فِي الْمُنْتَبِتِ السُّوءِ﴾
 ”طاہری سرسبز چیز سے بچو۔ دریافت کیا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ ﷺ
 نے فرمایا ”خوبصورت عورت جو بری نشوونما میں ہو۔“

دو گروہوں کی درستگی پر پوری امت کی درستگی کی ضمانت

(8) ﴿صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا، صَلَحَ النَّاسُ: الْأَمْرَاءُ وَالْفُقَهَاءُ﴾
 ”میری امت کی دو قسمیں اگر درست ہو جائیں تو (سب) لوگ درست ہو
 جائیں ایک امراء اور دوسرے فقہاء۔“
 ایک روایت میں یہ لفظ ہیں:

﴿صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا، صَلَحَ النَّاسُ: الْأَمْرَاءُ وَالْعُلَمَاءُ﴾

(6) [موضوع: شیخ البانیؒ نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔] تنزیہ الشریعة للکتابی

(303/2) الفوائد المحمودة للشوکانی (712) السلسلة الضعیفة (12)

(7) [ضعیف جدا: حافظ عراقی اور امام ابن ملقنؒ نے اسے ضعیف کہا ہے۔ شیخ البانیؒ نے کہا ہے

کہ یہ روایت بہت زیادہ ضعیف ہے۔] تخريج الاحیاء (42/2) السلسلة الضعیفة (14)

”اگر میری امت کے دو قسم کے لوگ درست ہو جائیں تو (تمام) لوگ درست ہو جائیں، امراء اور علماء۔“

میرے مرتبے کا وسیلہ پکڑو

(9) ﴿تَوَسَّلُوا بِجَاهِيْ، فَإِنَّ جَاهِيْ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ﴾

”میرے مقام و مرتبے کا وسیلہ پکڑو کیونکہ میرا مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔“

نماز کے لیے نکلنے وقت دعا کرنے سے ہزار فرشتوں کی استغفار

(10) ﴿مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ،

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا فَإِنِّي لَمْ أُخْرَجْ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا أَقْبَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

بِوَجْهِهِ وَاسْتُغْفَرَ لَهُ أَلْفَ مَلَكٍ﴾

”جو شخص اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلا اور اس نے کہا، اے اللہ! میں تجھ سے ان مانگنے والوں کے طفیل سوال کرتا ہوں جو تجھ سے مانگتے ہیں اور اپنے اس چلنے کے طفیل سوال کرتا ہوں اور بے شک میں نخر اور تکبر سے باہر نہیں نکلا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے ایک ہزار (1,000) فرشتے استغفار کرتے ہیں۔“

(8) [موضوع : امام احمد نے کہا ہے کہ اس روایت کا ایک راوی کذاب تھا وہ حدیثیں گھڑا کرتا

تھا۔ امام ابن مہین اور امام دارقطنی نے بھی اس کی مثل ہی کہا ہے۔ شیخ البانی نے کہا ہے کہ یہ روایت

موضوع (یعنی من گھڑت) ہے۔ [تخریج الاحیاء (6/1) السلسلة الضعیفة (16)]

(9) [امام ابن تیمیہ اور شیخ البانی نے کہا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں۔] اقتضاء الصراط المستقیم

لابن تیمیة (415/2) السلسلة الضعیفة (22)

(10) [ضعیف : امام منذری نے اسے ضعیف کہا ہے۔ حافظ بصری نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیفہ کا

تسلسل ہے۔ شیخ البانی نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔] الترغیب والترہیب للمسنری

(272/3) سنن ابن ماجہ (256/1)

امت محمدتاً قیامت خیر و بھلائی کا مرکز

(11) ﴿الْخَيْرُ فِيَّ وَفِيَّ أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾

”خیر و بھلائی مجھ میں اور تاقیامت میری امت میں ہے۔“

عمر کے بعد سونے سے عقل خراب ہو جانے کا اندیشہ

(12) ﴿مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَاخْتَلَسَ عَقْلُهُ ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ﴾

”جو شخص عصر کے بعد سویا اور اس کی عقل کو چھٹا مار لیا گیا (یعنی عقل ختم کر دی گئی)

تو وہ سوائے اپنے نفس کے ہرگز کسی کو ملامت نہ کرے۔“ (12)

بے وضوء ہونے کے بعد وضوء کرنے کی ترغیب

(13) ﴿مَنْ أَحَدَثَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَقَدْ جَفَانِي وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُصَلِّ فَقَدْ جَفَانِي

وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَدْعُنِي فَقَدْ جَفَانِي وَمَنْ دَعَانِي فَلَمْ أُجِبْهُ فَقَدْ جَفَيْتُهُ وَلَسْتُ

بِرَبِّ جَافٍ﴾

”جو بے وضوء ہوا اور اس نے وضوء نہ کیا تو یقیناً اس نے مجھ پر ظلم کیا؛ جس نے وضوء

کیا اور نماز نہ پڑھی تو یقیناً اس نے مجھ پر ظلم کیا؛ جس نے نماز پڑھی اور مجھ سے دعا نہ مانگی تو

یقیناً اس نے مجھ پر ظلم کیا اور جس نے مجھ سے دعا مانگی لیکن میں نے اس کی دعا قبول نہ کی تو

(11) [حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ میں اس روایت کو نہیں جانتا۔] المقاصد الحسنة للسخاوی

(ص/208) مزید اس روایت کی تفصیل کے لیے دیکھئے: تذكرة الموضوعات للفتی (68)

الأسرار المرفوعة فی الأخبار الموضوعة للقراری (ص/195)

(12) [امام ابن جوزی نے اس روایت کو ”الموضوعات“ (69/3) میں امام سیوطی نے ”

اللائكی المصنوعة“ (279/2) میں اور امام ذہبی نے ”ترتيب الموضوعات“ (839)

میں نقل کیا ہے۔]

یقیناً میں نے اس پر ظلم کیا اور میں ظالم رب نہیں ہوں۔“

حج کے دوران قبر نبوی کی زیارت کی ترغیب

(14) ﴿مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي﴾

”جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی تو بلاشبہ اس نے مجھ پر زیادتی کی۔“

حج کے دوران قبر نبوی کی زیارت کی فضیلت

(15) ﴿مَنْ حَجَّ فَرَّازَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي، كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي﴾

”جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو وہ ایسے شخص کی

مانند ہے جس نے میری زندگی میں ہی میری زیارت کی۔“

امت کا اختلاف رحمت ہے

(16) ﴿اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ﴾

”میري امت کا اختلاف رحمت ہے۔“

(13) [موضوع: امام صفائیؒ نے اسے موضوع (یعنی من گھڑت و خود ساختہ) کہا ہے۔] [الموضوعات

(53)] [شیخ البانیؒ نے بھی اسے موضوع قرار دیا ہے۔] [السلسلة الضعيفة (44)]

(14) [موضوع: امام ذہبیؒ، امام صفائیؒ اور امام شوکانیؒ اسے موضوع قرار دیا ہے۔] [ترتیب

الموضوعات (600) الموضوعات للصفاني (52) الفوائد المجموعة للشوکانی

[(326)]

(15) [موضوع: امام ابن تیمیہؒ نے اسے ضعیف کہا ہے۔] [شیخ البانیؒ نے اسے موضوع کہا ہے۔

قاعدة جلیلة لابن تیمیہ (57) السلسلة الضعيفة (47) مزید دیکھئے: ذخیرة الحفاظ

لابن القیسرانی (5250/4)]

(16) [موضوع: الأسرار المرفوعة (506) تنزیہ الشریعة (402/2) شیخ البانیؒ نے کہا ہے کہ

اس کی کوئی اصل نہیں۔] [السلسلة الضعيفة (11)]

کسی بھی صحابی کی اتباع ذریعہ ہدایت

(17) ﴿أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بَأْيِهِمْ اتَّقَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ﴾

”میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔“

ایک دوسری روایت میں یہ لفظ ہیں:

﴿إِنَّمَا أَصْحَابِي مِثْلُ النُّجُومِ فَإِيَّاهُمْ اتَّخَذْتُمْ بِقَوْلِهِ اهْتَدَيْتُمْ﴾

”بلاشبہ میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، پس ان میں سے جس کے قول کو بھی تم پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔“

نفس کی پہچان ہی رب کی پہچان ہے

(18) ﴿مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ﴾

”جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، یقیناً اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔“

مجھے میرے رب نے ادب سکھایا

(19) ﴿أَدَّبَنِي رَبِّي، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي﴾

”میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور خوب اچھا مہذب بنایا۔“

(17) [موضوع: امام ابن حزمؒ نے کہا ہے کہ یہ جمہور اور باطل خیر ہے ہرگز ثابت نہیں۔] الاحکام

فی أصول الأحکام (64/5) شیخ البانیؒ نے اسے موضوع کہا ہے۔ [السلسلة الضعيفة

(66) مزید دیکھئے: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (91/2)]

(18) [موضوع: الأسرار المرفوعة (506) تنزیہ الشریعة (402/2) تذکرة الموضوعات (11)]

(19) [امام ابن تیمیہؒ نے کہا ہے کہ اس کی کوئی ثابت سند معروف نہیں۔] احادیث القصاص (78)

امام شوکانیؒ نے اسے ”الفوائد المجموعة“ (1020) میں اور شیخ فتنی نے ”تذکرة

الموضوعات“ (87) میں نقل کیا ہے۔]

مخلص لوگ بھی خطرے میں ہیں

(20) ﴿النَّاسُ كُلُّهُمْ مَوْتَىٰ إِلَّا الْعَالِمُونَ ، وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَلَكِيٌّ إِلَّا الْعَامِلُونَ ، وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ غَرَقِيٌّ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ عَلَىٰ خَطَرٍ عَظِيمٍ﴾

”تمام لوگ مردے ہیں سوائے علم والوں کے اور تمام علم والے ہلاک و برباد ہونے والے ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے اور تمام عمل کرنے والے غرق و فنا ہونے والے ہیں سوائے اخلاص والوں کے اور اخلاص والے بھی بہت بڑے خطرے میں ہیں۔“

مومن کے جو ٹھٹھے میں شفا ہے

(21) ﴿سُوْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ شِفَاءٌ﴾

”مومن کا جو ٹھٹھا شفا ہے۔“

خلیفہ مہدی کی آمد کی ایک علامت

(22) ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الرِّايَاتِ السُّوْدَ خَرَجَتْ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ ، فَأَتَوْهَا وَلَوْ حَبْوًا ، فَإِنَّ فِيهَا خَلِيْفَةَ اللَّهِ الْمَهْدِيَّ﴾

”جب تم دیکھو کہ سیاہ جھنڈے خراسان کی جانب سے نکل پڑے ہیں تو ان کی جانب آؤ خواہ تمہیں پیٹھ کے بل گھسٹ کر ہی آنا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ ”مہدی“

(20) [امام صفائی] نے کہا ہے کہ یہ کذب و افتراء ہے۔ [الموضوعات (200)] امام شوکانی نے اس روایت کو ”الفوائد المجموعه“ (771) میں اور شیخ فتی نے ”تذکرۃ الموضوعات“ (200) میں نقل کیا ہے۔

(21) [اس کی کوئی اصل نہیں۔ الأسرار المرفوعة (217) کشف الخفاء (1500/1) السلسلہ

موجود ہے۔“

توبہ کرنے والے کی فضیلت

(23) ﴿التَّائِبُ حَبِيبُ اللَّهِ﴾

”توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب (یعنی دوست) ہے۔“

نبی کریم ﷺ کو کوئی بات بلا مقصد نہیں بھلائی جاتی تھی

(24) ﴿أَمَا إِنِّي لَا أَنْسَى، وَلَكِنْ أَنْسَ لِأَشْرَعِ﴾

”خبردار! بے شک میں بھولتا نہیں، لیکن مجھے بھلا دیا جاتا ہے تاکہ میں

شریعت کے احکام مقرر کروں۔“

لوگ مرنے کے بعد ہوش میں آئیں گے

(25) ﴿النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا﴾

”لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب وہ مریں گے تب جاگیں گے۔“

(22) [ضعيف: المنار المنيف لابن القيم (340) الموضوعات لابن الجوزي (39/2)]

تذكرة الموضوعات (233)]

(23) [اس کی کوئی اصل نہیں۔ الأحادیث الثنی لا أصل لها فی الاحیاء للسبکی (356)]

السلسلة الضعيفة (95)]

(24) [اس کی کوئی اصل نہیں۔ الأحادیث الثنی لا أصل لها فی الاحیاء للسبکی (357)]

السلسلة الضعيفة (101)]

(25) [اس کی کوئی اصل نہیں۔ الأسرار المرفوعة (555) الفوائد المجموعة (766) تذكرة

الموضوعات (200)]

بچی حدیث کی پہچان

(26) ﴿مَنْ حَدَّثَ حَدِيثَنَا، فَعَطَسَ عِنْدَهُ، فَهُوَ حَقٌّ﴾

”جس نے کوئی حدیث بیان کی اور اس وقت اسے پیاس نے آن لیا تو وہ (حدیث) سچی ہے۔“

طلاق سے عرش کانپ اٹھتا ہے

(27) ﴿تَزَوُّجُوا وَلَا تَطْلُقُوا، فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَرُ لَهُ الْعَرْشُ﴾

”شادی کرو اور طلاق مت دو۔ کیونکہ طلاق سے عرش کانپ اٹھتا ہے۔“

بقدر درہم خون لگا ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے

(28) ﴿تَعَاذُ الصَّلَاةُ مِنْ قَلْبِ الدَّرْهِمِ مِنَ الدَّمِ﴾

”ایک درہم کے برابر خون کی وجہ سے نماز دہرائی جائے گی (یعنی اگر کسی کے کپڑوں کو اتنا خون لگا ہو اور وہ نماز ادا کر لے تو اس پر لازم ہے کہ دوبارہ نماز ادا کرے اور اگر اس سے کم خون لگا ہو تو پھر اعادہ لازم نہیں)۔“

سخی کی فضیلت

(29) ﴿السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِّنَ اللَّهِ، قَرِيبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِّنَ النَّاسِ﴾

(26) [موضوع : تنزیہ الشریعہ (483) السلاکی المصنوعہ (286/2) الفوائد المجموعہ

[(669)

(27) [موضوع : ترتیب الموضوعات (694) الموضوعات للصفانی (97) تنزیہ الشریعہ

[(202/2)

(28) [موضوع : ضعاف الدارقطنی للغسانی (353) الأسرار المرفوعہ (138)

الموضوعات لابن الحوزی [(76/2)

بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ ، وَ الْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ ، بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ ، وَلَجَاهِلٌ سَعِيٌّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ عَابِدٍ بَخِيلٍ ﴿

”سخی اللہ کی رحمت کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور جہنم کی آگ سے دور ہوتا ہے جبکہ بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے اور جاہل سخی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بخیل عبادت گزار سے زیادہ محبوب ہے۔“

عربی زبان کی شان

(30) ﴿ اَنَا عَرَبِيٌّ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ ﴾

”میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔“

قرآن کا دل سورہ یس

(31) ﴿ اِنْ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا ، وَاِنْ قَلْبُ الْقُرْآنِ ”يس“ مَنْ قَرَأَهَا ، فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ﴾

”بلاشبہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ ”یس“ ہے۔ جس نے اسے (ایک بار) پڑھا گویا اس نے دس مرتبہ قرآن پڑھا۔“

فکر آخرت کی فضیلت

(32) ﴿ فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِّينَ سَنَةً ﴾

(29) [ضعیف جدا : المنار المنيف لابن القيم (284) ترتيب الموضوعات (564)]

[اللائی المصنوعة (91/2)]

(30) [تذکرہ الموضوعات (112) المقاصد الحسنة (31) تنزیہ الشریعة (30/2)]

(31) [موضوع : العلل لابن أبی حاتم (55/2) السلسلة الضعیفة (169)]

”قیامت کی فکر ساٹھ (60) سال کی عبادت سے بہتر ہے۔“

مسجد کا پڑوسی گھر میں نماز ادا نہیں کر سکتا

(33) ﴿ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ ﴾
 ”مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے (گھر میں نہیں)۔“

حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ

(34) ﴿ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يُصَافِحُ بِهَا عِبَادَهُ ﴾
 ”حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں سے مصافحہ کرتا ہے۔“

روزے تندرستی کی ضمانت

(35) ﴿ صُومُوا تَصِحُّوا ﴾
 ”روزے رکھو صحت مند بن جاؤ گے۔“

(32) [موضوع : تنزیہ الشریعة (305/2) الفوائد المجموعہ (723) ترتیب الموضوعات (964)]

(33) [ضعیف : ضعاف الدارقطنی (362) اللآلئ المصنوعہ (16/2) العلل المتناہیة (693/1)]

(34) [موضوع : تاریخ بغداد للخطیب (328/6) العلل المتناہیة (944/2) السلسلة الضعیفة (223)]

(35) [ضعیف : تحریج الاحیاء (87/3) تذکرۃ الموضوعات (70) الموضوعات للصغانی (72)]

پڑوس کی حد

(36) ﴿أَوْصَانِي جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْجَارِ إِلَى أَرْبَعِينَ ذَارًا، عَشْرَةَ مِنْ هَاهُنَا، وَعَشْرَةَ مِنْ هَاهُنَا، وَعَشْرَةَ مِنْ هَاهُنَا، وَعَشْرَةَ مِنْ هَاهُنَا﴾
 ”مجھے جبرئیل علیہ السلام نے چالیس (40) گھروں تک پڑوس کے ساتھ (حسن سلوک کی) وصیت کی ہے، چالیس اس طرف سے، چالیس اس طرف سے، چالیس اس طرف سے اور چالیس اس طرف سے (یعنی اپنے گھر کے چاروں طرف دس دس گھر پڑوس میں شامل ہیں)۔“

کائنات کی تخلیق رسول اللہ ﷺ کے لیے

(37) ﴿لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا﴾

”(اے پیغمبر!) اگر تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔“

سورہ واقعہ کی تلاوت سے فقر و فاقے کا خاتمہ

(38) ﴿مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ مِنْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا﴾

”جس نے ہر رات ”سورہ واقعہ“ کی تلاوت کی اسے کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔“

رضائے الہی اور اہل اسلام کے لیے فکر کرنے کی ترغیب

(39) ﴿مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ غَيْرَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَمَنْ لَمْ

(36) [ضعیف : كشف الخفاء (1054/1) تخریج الاحیاء (232/2) المقاصد الحسنه

للسخاوی (170)]

(37) [موضوع : اللؤلؤ المرصوع للمشیثی (454) ترتیب الموضوعات (196)

السلسله الضعیفة (282)]

(38) [ضعیف : العلل المتتامه (151/1) تنزیه الشریعہ (301/1) الفوائد المجموعه

يَهْتَمُ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ ﴿

”جس نے صبح کی اور اس کا فکرو غم رضائے الہی کے علاوہ کچھ اور تھا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور جو مسلمانوں کے لیے غمگین و فکر مند نہیں ہوتا وہ ان میں سے نہیں۔“

جیسی عوام ویسا حکمران

(40) ﴿ كَمَا تَكُونُوا يُوَلَّىٰ عَلَيْكُمْ ﴿

”جیسے تم (خود) ہوتے ہو (ویسائی) تم پر والی و حاکم مقرر کر دیا جاتا ہے۔“

شب براءت میں گناہوں کی بخشش اور رزق کی فراخی

(41) ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا

فَيَغْفِرُ لَأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ كَلْبٍ ﴿

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ پندرہ (15) شعبان کی رات کو پہلے آسمان کی جانب اترتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ افراد کو بخش دیتے ہیں۔“

(39) [موضوع : الفوائد المجموعه (233) تذكرة الموضوعات (69) السلسلة الضعيفة

[312,309]

(40) [ضعيف : كشف الحفاء (1997/2) الفوائد المجموعه (624) تذكرة

الموضوعات (182)]

(41) [ضعيف : ضعيف ترمذی 'ترمذی (739) ضعيف ابن ماجه 'ابن ماجه (1389)]

○ اس روایت کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (بستر سے) غائب پایا (میں نے تلاش کیا تو) آپ صلی اللہ علیہ وسلم مع الغرقہ (مدینہ منورہ کے معروف قبرستان) میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تمہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میرا یہ گمان تھا کہ آپ کسی (دوسری) بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جہی اکلہ صفرہ ہر“

﴿گذشتہ سے پیوستہ﴾ بلاشبہ اللہ تعالیٰ پندرہ شعبان کی رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں..... (باقی حدیث اوپر مذکور ہے)۔

15 شعبان کی رات کی فضیلت میں چند دیگر ضعیف اور مشہور روایات حسب ذیل ہیں:

① حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں ﴿هَلْ تَدْرِينَ مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ؟ يَعْنِي لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَتْ: مَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: فِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُودٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، وَفِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، وَفِيهَا تُنَزَّلُ أَرْزَاقُهُمْ﴾ ”کیا تم جانتی ہو یہ (یعنی نصف (15) شعبان کی رات) کون سی رات ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں بنی آدم کے اس سال پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے اس میں بنی آدم کے اس سال ہر فوت ہونے والے انسان کے متعلق لکھا جاتا ہے اس میں ان کے اعمال (اللہ کی طرف) اٹھائے جاتے ہیں اور اس میں ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔“

[ضعیف: اس روایت کے متعلق شیخ البانی فرماتے ہیں کہ مجھ اس کی سند کا علم نہیں ہو سکا البتہ اس کے متعلق غالب گمان یہی ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ [هدایة الرواة (1257) مشکاة للابانی (409/1)]

② حضرت ابوسوی اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ﴿إِنَّ اللَّيْلَةَ لَيَطْلُعُ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيُخْفَرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِشُرْكَ أَوْ مُشَاجِرٍ﴾ ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ پندرہ (15) شعبان کی رات (اہل ارض) کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں اور شرک یا (بلاوجہ) دشمنی رکھنے والے کے سوا تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں۔“

[ضعیف: ابن مساحہ (1390) اس روایت کی سند میں عبداللہ بن لہیعہ راوی ضعیف ہے اور مزید یہ کہ اس میں انقطاع بھی ہے۔ مزید دیکھئے: المحرر والتعديل (682/5) المحرر وحین (11/2) میزان الاعتدال (475/2) تقریب (444/1)]

③ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ﴿إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقوموا ليَلِهَا وَصوموا نهارها، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِيُغْرِبَ الشَّمْسُ إِلَى سَمَاءِ السُّنْبَا فَيَقُولُ الْآمِنْ مُسْتَغْفِرِي فَأَغْفِرُ لَهْ، أَلَا مُسْتَرِزِي فَأَرْزُقُهْ، أَلَا مُبْتَلِي فَأُعَاقِبُهْ، أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ﴾ ”جب پندرہ (15) شعبان کی رات ہو تو اس رات کا قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس رات ﴿باقی اگلے صفحہ پر﴾

نو مولود کے کان میں اذان و اقامت کہنے کی فضیلت

(42) ﴿مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصَّبِيَانِ﴾

”جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تو اسے ”ام الصبیان“ (ایک بیماری کا نام) کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔“

﴿گلدستہ سے یہی مستہ﴾ غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں خبردار! کون مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے؟ میں اسے بخش دوں، کون رزق طلب کرنے والا ہے؟ میں اسے رزق دے دوں، کون آزمائش و مصیبت میں مبتلا ہے؟ میں اسے عافیت دے دوں، خبردار! فلاں فلاں کون ہے، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔“

[موضوع: ضعیف ابن ماجہ، ابن ماجہ (1388) ضعیف الجامع الصغیر (653)]
 ④ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ﴿عَمَسُ لَيْالٍ لَا تَرُدُّ فِيْهِنَّ الدَّعْوَةُ: أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَكَيْلَةُ النُّصُفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَكَيْلَةُ الْحُمُعَةِ، وَكَيْلَةُ الْفِطْرِ، وَكَيْلَةُ النَّحْرِ﴾ ”پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی (1) ماہِ رَجَبِ کی پہلی رات (2) نصف یعنی پندرہ شعبان کی رات (3) جمع کی رات (4) عید الفطر کی رات (5) عید الاضحیٰ کی رات۔“

[موضوع: ضعیف الجامع الصغیر للألبانی (2852)]

● واضح رہے کہ مذکورہ 41 نمبر حدیث راقم کا اضافہ ہے، مصنف کی طرف سے نہیں ہے کیونکہ یہاں بھی مصنف نے (واللہ اعلم کس وجہ سے؟) وہی حدیث لکھ دی تھی جو 40 نمبر پر تھی، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس بلا ضرورت تکرار سے بچنے کے لیے اور ترتیب کھل کرنے کے لیے کوئی ایسی لوگوں میں مشہور ضعیف روایت نقل کر دی جائے جس سے قارئین کے علم میں مزید اضافہ ہو سکے۔ (مترجم)

(42) [موضوع: المیزان للذہبی (397/4) مجمع الزوائد للہیثمی، تعریج الاحیاء

ایک سنت زندہ کرنے سے سو شہیدوں کا اجر

(43) ﴿مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ﴾
 ”جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے
 رکھا اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔“

(44) ﴿الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ﴾
 ”میري امت کے فساد کے وقت میری سنت پر قائم رہنے والے کے لیے
 شہید کا اجر ہے۔“

میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں

(45) ﴿أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ﴾
 ”میں دو ذبیحوں (یعنی اسماعیل علیہ السلام اور آپ ﷺ کے والد عبداللہ) کا بیٹا ہوں۔“

قرآن، والدین اور علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے

(46) ﴿النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ وَنَظَرُ الْوَالِدِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ وَالنَّظَرُ
 إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عِبَادَةٌ﴾
 ”قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اولاد کا والدین کو دیکھنا عبادت ہے اور حضرت علی بن
 ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔“

(43) [ضعيف جدا: ذخيرة الحفاظ (5174/4) السلسلة الضعيفة (326)]

(44) [ضعيف: السلسلة الضعيفة (327)]

(45) [اس کی کوئی اصل نہیں۔ رسالہ لطیفہ لابن قدامة (23) اللولو المرصوع (81) النجبة

البهية للسبناوى (43)]

(46) [موضوع: السلسلة الضعيفة (356)]

مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کی فضیلت

(47) ﴿مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَا يَفُوتُهُ صَلَاةٌ كُتِبَتْ لَهُ بِرَأْتَهُ
مَنْ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَبَرِي مِنَ النِّفَاقِ﴾

”جس نے میری مسجد (یعنی مسجد نبوی) میں 40 نمازیں ادا کیں (اور ان میں سے) کوئی ایک نماز بھی فوت نہ ہوئی تو اس کے لیے آگ سے برائت اور عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی اور وہ نفاق سے بری ہو جائے گا۔“

قریبی رشتہ دار نیکی کے زیادہ مستحق

(48) ﴿الْأَقْرَبُونَ أَوْلَىٰ بِالْمَعْرُوفِ﴾

”قریبی رشتہ دار نیکی کے زیادہ مستحق ہے۔“

جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص

(49) ﴿أَخْرَجُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ مِّنْ جُهَيْنَةَ، يُقَالُ لَهُ: جُهَيْنَةُ،
فَيَسْأَلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ يُعَذَّبُ؟ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُونَ: عِنْدَ
جُهَيْنَةَ الْخَبَرِ الْبَيِّنِ﴾

”سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا شخص قبیلہ جہینہ کا ایک فرد ہوگا جسے جہینہ کہہ کر پکارا جائے گا۔ اہل جنت اس سے دریافت کریں گے کہ کیا کوئی ایسا شخص باقی ہے

(47) [ضعيف : السلسلة الضعيفة (364)]

(48) [اس کی کوئی اصل نہیں۔ الأسرار المرفوعة (51) اللؤلؤ المرصوع (55) المقاصد

الحسنة للسعوى (141)]

جسے عذاب دیا جا رہا ہو؟ وہ کہے گا، نہیں۔ تو وہ کہیں گے جہینہ کے پاس یقینی خبر ہے۔“

بہترین نام

(50) ﴿ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ مَا عُبِدَ وَمَا حُمِدَ ﴾

”بہترین نام وہ ہے جس کے ساتھ عبادت کی جائے اور تعریف کی جائے۔“

طلب علم کے لیے چین تک جانے کا حکم

(51) ﴿ اَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصَّيْنِ ﴾

”علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین تک جانا پڑے۔“

عورتوں کی رائے کی مخالفت کرنے کا حکم

(52) ﴿ شَاوِرُوهُنَّ. يَعْْنَى النَّسَاءُ. وَخَالِفُوهُنَّ ﴾

”ان سے یعنی خواتین سے مشورہ کرو (مگر مشورہ کے بعد) ان کی مخالفت کرو۔“

روز قیامت لوگوں کو ماؤں کے ساتھ بلایا جائے گا

(53) ﴿ يَدْعَى النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأُمَّهَاتِهِمْ مَسْتَرًا مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ ﴾

”روز قیامت لوگوں کو ان کی ستر پوشی کے لیے ان کی ماؤں کے ساتھ پکارا جائے گا

(49) [موضوع: الكشف الالهي للطرابلسي (161/1) تنزيه الشريعة (391/2) الفوائد

المجموعة (1429)]

(50) [موضوع: الأسرار المرفوعة (192) اللولو المرصوع (189) النخبة (117)]

(51) [موضوع: الموضوعات لابن الحوزي (215/1) ترتيب الموضوعات للنهبي

(111) الفوائد المجموعة (852)]

(52) [اس کی کوئی اصل نہیں۔ اللولو المرصوع (264) تذكرة الموضوعات (128) الاسرار

المرفوعة (240)]

(کیونکہ اگر باپوں کے ساتھ پکارا گیا تو ممکن ہے کہ دنیا میں جو اس کا باپ تھا وہ حقیقت میں اس کا باپ ہی نہ ہو بلکہ باپ کوئی اور ہی ہو اور پھر میدانِ محشر میں برسر عام یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وہ تو ولدِ زنا ہے۔“

حکمران زمین میں اللہ کا سایہ ہے

(54) ﴿السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، مَنْ نَصَحَهُ هَدَىٰ وَمَنْ غَشَّهُ ضَلَّ﴾
 ”حکمران اللہ کی زمین میں اس کا سایہ ہے، جس نے اس کی خیر خواہی کی وہ ہدایت پا گیا اور جس نے اسے دھوکہ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔“

اللہ سے ڈرنے والے اور نہ ڈرنے والے کا انجام

(55) ﴿مَنْ خَافَ اللَّهَ خَوَّفَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ خَوَّفَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾
 ”جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اللہ اس سے ہر چیز کو ڈرائیں گے اور جو اللہ تعالیٰ سے خائف نہ ہو تو پھر اللہ اسے ہر چیز سے ڈرائیں گے۔“

اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونے والے کو دوسرا ب تلاش کرنے کا حکم

(56) ﴿قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَيَصْبِرْ عَلَيَّ بَلَاءِي﴾

(53) [موضوع: اللائی المصنوعة للسيوطی (449/2) الموضوعات لابن الحوزی

(248/3) ترتيب الموضوعات (1123)]

(54) [موضوع: تذكرة الموضوعات للفتی (182) الفوائد المجموعة للشوكانی

(623) السلسلة الضعيفة (475)]

(55) [ضعيف: تعريج الاحياء للعراقی (145/2) تذكرة الموضوعات (20) السلسلة

الضعيفة (485)]

فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا سَوَاءً ﴿

”اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہو اور جس نے میری آزمائش پر صبر نہ کیا تو وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔“

فاسق کی غیبت نہیں ہوتی

(57) ﴿لَيْسَ لِفَاسِقٍ غَيْبَةٌ﴾

”فاسق و فاجر کی غیبت نہیں ہوتی (یعنی گناہگار کی غیبت کرنے سے گناہ نہیں ہوتا)۔“

تدفین کے بعد مردے کو ہدایت

(58) ﴿إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فَلْنْتُمُوهُ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَلْيَقُلْ : يَا فُلَانُ بَنَ فُلَانَةَ أَوِ ابْنَةَ فُلَانٍ ، فَإِنَّهُ سَيَسْتَوِي قَاعِدًا ، فَلْيَقُلْ يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ أَرْضِدْنِي أَرْضِدْنِي ، رَحِمَكَ اللَّهُ ، فَلْيَقُلْ : اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿

”جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہو اور تم اسے دفن کرو تو تم میں سے کوئی اس کے سر کے قریب کھڑا ہو اور کہے اے فلاں عورت کے بیٹے فلاں! تو یقیناً وہ سنے گا۔ پھر وہ کہے

(56) [ضعيف : الكشف الالهى للطبرابلسى (625/1) تذكرة الموضوعات (189)

الغوائد المجموعة (746)]

(57) [موضوع : الأسرار المرفوعة للمهروى (390) المنار المنيف لابن القيم (301)

الكشف الالهى (764/1)]

اے فلاں عورت کے بیٹے فلاں! تو بلاشبہ وہ برابر ہو کر بیٹھ جائے گا۔ پھر وہ کہے اے فلاں عورت کے بیٹے فلاں! تو بے شک وہ کہے گا مجھے ہدایت کرو مجھے ہدایت کرو اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر وہ کہے اس چیز کو یاد کرو کہ جس پر تم اس دنوی گھر سے رخصت ہوئے ہو (یعنی) یہ شہادت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بے شک محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ اہل قبور کو (ان کی قبروں سے ضرور) اٹھائیں گے۔“

استخارہ مشورہ اور میانہ روی اختیار کرنے والے کیلئے بشارت

(59) ﴿ مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ ، وَلَا لَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ ، وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ ﴾
 ”جس نے استخارہ کیا وہ (کبھی) خراب و خاسر نہ ہوا، جس نے مشورہ کیا وہ (کبھی) نادوم و پشیمان نہ ہوا اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ (کبھی) فقیر نہ ہوا۔“

بال اور ناخن کاٹ کر نبی ﷺ دفن کرنے کیلئے جنت البقیع بھیجتے

(60) ﴿ كَانَ إِذَا أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ قَلَمِ أَظْفَارَهُ أَوْ اخْتَجَمَ بَعَثَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ لِدْفِنِ ﴾

”آپ ﷺ جب اپنے بال یا ناخن کاٹتے یا پھینچنے لگواتے تو ان بالوں کو بقیع الغرقد (کے قبرستان) کی طرف بھیجتے اور پھر وہ (وہاں) دفن کر دیئے جاتے۔“

(58) [ضعیف : تخريج الاحياء (420/4) زاد المعاد لابن القيم (206/1) السلسلة الضعيفة (599)]

(59) [موضوع : الكشف الالهى (775/1) السلسلة الضعيفة (611)]

(60) [موضوع : العلل لابن ابي حاتم (337/2) السلسلة الضعيفة (713)]

مومن کی صفات

(61) ﴿الْمُؤْمِنُ كَيْسٌ فَطِنٌ حَلِيزٌ﴾

”مومن زیرک، سمجھ دار اور چوکنا ہوتا ہے۔“

ماہ رمضان کی فضیلت

(62) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظْلَكُكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَقِيَامَ لَيْلَتِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، وَشَهْرٌ يَزَادُ فِيهِ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ وَمَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِدُنُوبِهِ وَعِتْقٌ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نَفْطُرُ بِهِ الصَّائِمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُعْطَى اللَّهُ هَذَا الثَّرَابَ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى مَدَقَّةِ لَبَنِ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شُرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شُرْبَةٍ لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ﴾

”اے لوگو! بے شک تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کلن ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں (کی عبادت) سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کے قیام اللیل (یعنی نماز تراویح) کو نفل طور پر مقرر فرمایا ہے۔ جس نے اس

(61) [موضوع: كشف الخفاء للمحلوني (2684/2) الكشف الالهى للطرابلسي

مہینے میں کوئی بھی خیر کا کام کیا وہ اس شخص کی مانند ہوگا جس نے اس مہینے کے سوا (کسی اور مہینے میں) کوئی فرض ادا کیا اور جس نے اس میں کوئی فرض ادا کیا وہ اس شخص کی مانند ہوگا جس نے اس مہینے کے سوا ستر فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہی ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے اور ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس میں کسی ایک روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اس کی گردن کو جہنم سے آزادی مل جائے گی اور اس کو بھی روزہ دار (جس کا روزہ کھلوا یا ہے) کے برابر ثواب حاصل ہوگا مگر روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! ہم سب اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ایسے شخص کو عطا فرمادے گا جس نے دودھ کے ایک گھونٹ یا کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ ہی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اور جس نے روزہ دار کو خوب سیر کر کے کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا جس سے جنت میں داخل ہونے تک وہ پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے، جس کے وسط میں (لوگوں کے گناہوں کی) مغفرت ہوتی ہے اور جس کے آخر میں جہنم سے آزادی ملتی ہے اور جس نے اس مہینے میں اپنے ماتحت (غلام یا لونڈی) پر تخفیف کی اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے اور اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے۔“

جہنم کی کیفیت

(63) ﴿يَا جِبْرِيلُ صِفْ لِي النَّارَ، وَانْعَثْ لِي جَهَنَّمَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِنَّ اللَّهَ

(62) [ضعيف: العليل لابن أبي حاتم (249/1) السلسلة الضعيفة (871) يبهقى فى

شعب الامان (3608) هداية الرواة (1906) شيخ البانى نے اس کی سند کو بہت زیادہ

ضعيف کہا ہے۔]

تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمْرٌ بِجَهَنَّمَ فَأَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى احْمَرَّتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فِيهَا سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٍ ﴿

”اے جبرئیل علیہ السلام! میرے لیے آگ اور جہنم کا وصف بیان کیجئے۔ جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے متعلق حکم ارشاد فرمایا تو اسے ایک ہزار سال جلایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اس کے متعلق حکم دیا تو اسے پھر ایک ہزار سال جلایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر (تیسری بار) اس کے متعلق حکم دیا تو اسے پھر ایک ہزار سال جلایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی اور اب اس کا رنگ انتہائی سیاہ و تاریک ہے۔“

کثرت کلام کا نقصان

(64) ﴿ لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قِسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أُنْبَعْدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي ﴾

”اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کثرت سے کلام مت کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام دل کو سخت کر دیتا ہے اور بلاشبہ لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل ہی ہے۔“

اگلی صف پوری ہو چکی ہو تو کسی آدمی کو پیچھے کھینچنا

(65) ﴿ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّفِّ وَقَدْ تَمَّ فَلْيَجْبِذْ إِلَيْهِ رَجُلًا يَقِيمُهُ إِلَى جَنْبِهِ ﴾

”جب تم میں سے کوئی صف تک پہنچے اور وہ پوری ہو چکی ہو تو وہ (صف سے) کسی

(63) [موضوع: الہیمنی (387/10) السلسلة الضعيفة (910)]

(64) [ضعيف: السلسلة الضعيفة (920)]

آدی کو اپنی طرف کھینچ لے اور اسے اپنے پہلو میں کھڑا کر لے۔“

اس امت میں تمیں ابدال ہوں گے

(66) ﴿الْأَبْدَالُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثُونَ، مِثْلُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَانِ عَزَّوَجَلَّ، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَكَانَهُ رَجُلًا﴾
 ”اس امت میں تمیں ابدال⁽¹⁾ ہوں گے، ابراہیم خلیل الرحمن عليه السلام کی مانند جب کبھی (ان ابدال میں سے) ایک آدی فوت ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے آدی کو بھیج دیں گے۔“

تمام صحابہ میں ابو بکر رضي الله عنه کی فضیلت کی وجہ

(67) ﴿مَا فَضَّلَكُمْ أَبُو بَكْرٍ بِكَثْرَةِ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَكِنْ بِشَيْءٍ وَقَرَّ فِي صَدْرِهِ﴾
 ”ابو بکر رضي الله عنه روزوں اور نمازوں کی کثرت کے باعث تم پر فضیلت نہیں لے گئے بلکہ اس چیز کے باعث (انہیں یہ شرف و مقام حاصل ہوا ہے) جس کا بوجہ انہوں نے اپنے سینے میں اٹھا رکھا ہے (یعنی ایمان و تقویٰ)۔“

(65) [ضعيف: تلخيص الحبير لابن حجر (37/2) السلسلة الضعيفة (921)]

(66) [موضوع: الأسرار المرفوعة لعلی القاری (470) تمييز الطيب من العيب لابن

الديبع (7) المنار المنيف لابن القيم (308)]

(1) [شمس الحق عظیم آبادی بیان فرماتے ہیں کہ ابدال بدل کی جمع ہے۔ ان کا نام ابدال رکھنے کا سبب یہ ہے کہ ان میں سے جب بھی کوئی آدی فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک اور آدی بھیج

دیتے ہیں۔ [عون المعبود (تحت الحديث / 4286)]

(67) [اس کی کوئی اصل نہیں۔ الأسرار المرفوعة لعلی القاری (452) الأحاديث التي لا أصل

لها في الاحياء للسبكي (288) المنار المنيف (246)]

بیت اللہ میں طواف ہی تحیۃ المسجد ہے

(68) ﴿تَحِيَّةُ الْبَيْتِ الطَّوَّافِ﴾

”بیت اللہ میں تحیۃ المسجد طواف ہی ہے (یعنی مسجد حرام میں داخل ہوتے ہی طواف کرنے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد بھی ادا کرے)۔“

نماز میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے

(69) ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ بَيْنَ عَيْنِي الرَّحْمَانِ فَإِذَا تَلَّعْتَ، قَالَ لَهُ الرَّبُّ: يَا ابْنَ آدَمَ إِلَىٰ مَنْ تَلَّعْتَ؟ إِلَىٰ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنِّي؟ ابْنَ آدَمَ! أَقْبِلْ عَلَيَّ صَلَاتِكَ فَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّنْ تَلَّعْتَ إِلَيْهِ﴾

”بلاشبہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ رحمن کی دو آنکھوں کے درمیان ہوتا ہے اور اگر وہ اِدھر اُدھر جھانکے تو پروردگار اسے کہتا ہے اے آدم کے بیٹے! تو کس کی طرف جھانکتا ہے؟ کیا کسی ایسی ہستی کی طرف (تو جھانک رہا ہے) جو تیرے لیے مجھ سے بھی بہتر ہے؟ آدم کے بیٹے! اپنی نماز میں توجہ رکھ میں تیرے لیے اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو جھانک رہا ہے۔“

کیا اللہ تعالیٰ بھی سوتے ہیں؟

(70) ﴿وَقَعَ فِي نَفْسِ مُوسَى: هَلْ يَنَامُ اللَّهُ تَعَالَى؟ فَأَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا، فَأَرْقَدَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ قَارُورَتَيْنِ، فِي كُلِّ يَدٍ قَارُورَةٌ..... ثُمَّ نَامَ نَوْمًا، فَاصْطَفَقَتْ يَدَاهُ وَانْكَسَرَتِ الْقَارُورَتَانِ، قَالَ: صَرَبَ اللَّهُ لَهُ مَثَلًا، أَنْ اللَّهُ

(68) [اس کی کوئی اصل نہیں۔ الأسرار المرفوعة (130) اللولو المرصوع (143)]

(69) [ضعیف جدا: الأحاديث القدسية الضعيفة والموضوعة للعيسوي (46) السلسلة

الضعيفة (1024)]

لَوْ كَانَ يَنَامُ لَمْ تَسْتَمْسِكِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ ﴿

”موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آیا اللہ تعالیٰ بھی سوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، اس نے انہیں (مسلل) تین دن سلائے رکھا، پھر انہیں دو شیشے کے برتن تھما دیئے، ہر ہاتھ میں ایک برتن پھر وہ سو گئے تو ان کے ہاتھ ہلے اور دونوں شیشے کے برتن (گرے اور) ٹوٹ گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ مثال بیان کی کہ اگر اللہ تعالیٰ سو جاتے تو آسمان، وزمین رُکے نہ رہتے (بلکہ گر جاتے)۔“

نظر شیطان کا ایک تیر ہے

(71) ﴿النُّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ ابْلِيسَ مَنْ تَرَكَهَا خَوْفًا مِنَ اللَّهِ آتَاهُ اللَّهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ ﴿

”غیر محرم کی طرف) دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے اللہ تعالیٰ سے خائف ہو کر اسے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا فرمائیں گے جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔“

تکسیر پھوٹ پڑنے سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے

(72) ﴿يُعَادُ الْوُضُوءُ مِنَ الرَّعَافِ السَّائِلِ ﴿

”بہنے والی تکسیر کی وجہ سے دوبارہ وضوء کیا جائے گا۔“

(70) [ضعيف: العلل المتناهية لابن الحوزي، السلسلة الضعيفة (1034)]

(71) [ضعيف جدا: الترغيب والترهيب للمنذرى (106/4) مجمع الزوائد للهيثمى

(63/8) تلخيص المستدرک للذهبي (314/4)]

(72) [موضوع: ذخيرة الحفاظ لابن طاهر (6526/5) السلسلة الضعيفة (1071)]

ایمان کی حقیقت

(73) ﴿لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالْتَّمَنَى وَلَا بِالتَّحَلَّى، وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَقَهُ الْفِعْلُ﴾

”ایمان تمنا کرنے اور آراستہ ہونے کا نام نہیں بلکہ ایمان وہ چیز ہے جس کا بوجہ دل میں ہوتا ہے اور جس کی تصدیق (صاحب ایمان کا) کردار و عمل کرتا ہے۔“

قیامت کی ایک علامت

(74) ﴿تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا عَصَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ: هَذَا: يَا مُؤْمِنٍ، هَذَا: يَا كَافِرٍ﴾

”ایک جانور نکلے گا جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا (لاٹھی) ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور وہ کہے گا یہ ہے اے مومن! یہ ہے اے کافر!“

نبی کریم ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کیلئے مکڑی نے غار کے دروازے پر جال بن دیا

(75) ﴿انطلق النبي ﷺ وأبو بكر رضي الله عنهما إلى الغار فدخلاه فبجاءت العنكبوت فانسجت على باب الغار وجاءت قرينش تطلبون النبي ﷺ وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا لم يدخله أحد.....﴾

”نبی کریم ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی طرف گئے اور اس میں داخل ہو گئے۔ پھر ایک مکڑی آئی اور اس نے غار کے دروازے پر جال بن دیا۔ (کفار) قریش

(73) [موضوع: ذخيرة الحفاظ لابن طاهر (4656/4) السلسلة الضعيفة (1098)]

تبييض الصحيفة لمحمد عمرو (33)

(74) [منكر: السلسلة الضعيفة (1108)]

نبی کریم ﷺ کو تلاش کرتے ہوئے آئے اور جب غار کے دروازے پر کڑی کا جالا دیکھا تو کہا کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہوا۔“

وضوء ٹوٹ جانے پر وضوء کرنے کا حکم

(76) ﴿ وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ رِيْحًا ، فَقَالَ : لِيَقُمْ صَاحِبُ هَذَا الرِّيحِ فَلْيَتَوَضَّأْ ، فَاسْتَحْيَا الرَّجُلَ أَنْ يَقُومَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لِيَقُمْ صَاحِبُ هَذَا الرِّيحِ فَلْيَتَوَضَّأْ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَقُومُ كُلَّنَا نَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ : قُومُوا كُلُّكُمْ فَتَوَضَّؤُوا ﴾

”نبی کریم ﷺ نے بو محسوس کی تو کہا اس بو والا شخص کھڑا ہو اور وضوء کرے۔ آدمی کو کھڑے ہونے سے حیا آئی (اس لیے وہ کھڑا نہ ہوا)۔ تو رسول اللہ ﷺ نے (دوبارہ) فرمایا اس بو والا شخص کھڑا ہو اور وضوء کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا ہم سب نہ وضوء کر آئیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا (ہاں) تم سب وضوء کر آؤ۔“

پندرہ کام جنہیں اپنا لینے کے بعد امت آزمائش کا شکار ہو جائیگی

(77) ﴿ إِذَا فَعَلْتَ أُمَّتِيْ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ : إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوْلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَى أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَّ أَبَاهُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أُرْزَلَهُمْ وَأُحْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَشَرِبَتِ الْعُصُورُ وَلَبَسَ الْحَرِيرُ ﴾

(75) [ضعیف : السلسلة الضعیفة (1129) التحذیر بما قبل لا یصح فیہ حدیث لبرک

أبی زید (214)]

(76) [باطل : السلسلة الضعیفة (1132)]

وَاتَّخَذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِزُ وَلَعْنُ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا فَلْيُرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رَبِّهَا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا وَمَسْخًا ﴿

”جب میری امت پندرہ کام اپنالے گی تو اس پر آزمائش اتر آئے گی۔ (وہ کام یہ ہیں) (1) جب غنیمت متداول مال کی حیثیت اختیار کر لے گی (یعنی کسی کو مال غنیمت سے دیا جائے گا اور کسی کو محروم کر دیا جائے گا)؛ (2) امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا (یعنی لوگوں کی دی ہوئی امانتوں پر یوں قبضہ کر لیا جائے گا جیسے جنگ میں حاصل ہونے والا مال غنیمت ہے)؛ (3) زکوٰۃ تاوان بن جائے گی (یعنی لوگوں پر اس کی ادائیگی گراں ہو جائے گی کیونکہ وہ اسے مال کی پاکیزگی کا سبب یا حکم الہی نہیں بلکہ چٹی یا تاوان سمجھ لیں گے)؛ (4) مرد (ہر جائز و ناجائز کام میں) اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا (5) مگر اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا؛ (6) اپنے دوست کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئے گا (اور اسے اپنے قریب لائے گا) (7) مگر اپنے والد (پر زیادتی کرے گا اور اس) کو خود سے دور ہٹائے گا؛ (8) مساجد میں (جھگڑوں، تجارتی لین دین اور لہو و لعب کی) آوازیں بلند ہوں گی؛ (9) قوم کا کفیل و مکران (یعنی سردار) ان کا سب سے گھٹیا اور کمینہ شخص ہوگا؛ (10) آدمی کی عزت اس کے شر سے ڈرتے ہوئے کی جائے گی (مبادا کہ انہیں اس کا شر نہ پہنچ جائے)؛ (11) شرابیں پی جائیں گی؛ (12) (بلا ضرورت) ریشم پہنا جائے گا؛ (13) ناچ گانے والی عورتیں اور (14) گانے بجانے کے آلات پکڑ لیے جائیں گے؛ (15) اس امت کے آخری لوگ (یعنی بعد میں آنے والے) پہلوں (یعنی سلف صالحین) کو لعنت ملامت کریں گے (اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اعمال صالحہ بجالانے میں سلف صالحین کی اتباع و اقتداء نہیں کریں گے اور یہ انہیں لعنت کرنے کے ہی مترادف ہے؛ جب امت کے لوگ یہ کام کرنے لگیں) تو انہیں چاہیے کہ پھر سرخ آندھی اور ضعف و مسخ (زمین میں دھنسا اور صورتیں بدل جانا) کا انتظار کریں (یعنی پھر انہیں لازماً ایسے عذابوں سے

دو چار کیا جائے گا۔“

دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ

(78) ﴿ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ ﴾

”دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے۔“

رزق حلال کمانا بھی جہاد ہے

(79) ﴿ طَلَبُ الْحَلَالِ جِهَادٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ ﴾

”رزق (حلال) طلب کرنا جہاد ہے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ پیشہ ور (ال) حرفہ و ہنر

(مند) مومن سے محبت کرتے ہیں۔“

قرآن کی دلہن سورہ رحمن ہے

(80) ﴿ لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ الرَّحْمَنُ ﴾

”ہر چیز کی دلہن ہوتی ہے اور قرآن کی دلہن سورہ رحمن ہے۔“

قوم کا سردار درحقیقت قوم کا خادم ہوتا ہے

(81) ﴿ سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ ﴾

(77) [ضعیف : ضعیف ترمذی، ترمذی (2210) العلل المتناہیة (1421/2) الکشف

الالہی (33/1)]

(78) [موضوع : أحادیث القصاص لابن تیمیة (7) الأسرار المرفوعة (163/1) تذکرة

الموضوعات (173)]

(79) [ضعیف : النخبة البهية للسنبای (57) الکشف الالہی (518/1) السلسلة

الضعيفة (1301)]

(80) [منکر : السلسلة الضعيفة (1350)]

”قوم کا سرداران کا خادم ہوتا ہے۔“

شہد اور قرآن میں شفاء ہے

(82) ﴿عَلَيْكُمْ بِالشَّفَائِينَ : الْعَسَلُ وَالْقُرْآنُ﴾

”دو شفا بخش اشیاء کو لازم پکڑو ایک شہد اور دوسری قرآن۔“

أمیہ بن ابی الصلت کی حالت زار

(83) ﴿أَمِّنَ شِعْرُ أُمِيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ وَكَفَرَ قَلْبُهُ﴾

”امیہ بن ابی صلت کے شعر ایمان لے آئے ہیں (لیکن) اس کے دل نے کفر کیا ہے۔“

جیسا دین اختیار کرو گے ویسی ہی جزا دیئے جاؤ گے

(84) ﴿الْبِرُّ لَا يَسْلَى وَالْإِنَّمُ لَا يَنْسَى وَالذِّيَانُ لَا يَنَامُ فَكُنْ كَمَا شِئْتَ كَمَا

تَدِينُ تَدَانُ﴾

”نیکی بوسیدہ نہیں ہوتی، گناہ بھولتا نہیں اور حساب لینے والا سوتا نہیں۔ پس اب تم

جیسے چاہو بن جاؤ (کیونکہ یقیناً) تم جیسا دین اختیار کرو گے ویسی ہی جزا دیئے جاؤ گے۔“

ملک الموت کا سامنا کرنا کتنا سخت ہے؟

(85) ﴿لَمَعَالِجَةُ مَلِكِ الْمَوْتِ أَشَدُّ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ﴾

(81) [ضعیف : المقاصد الحسنة للسخاوی (579) السلسلة الضعيفة (1502)]

(82) [ضعیف : أحاديث معلة ظاهرها الصحة للوداعي (247) السلسلة الضعيفة

[(1514)]

(83) [ضعیف : كشف الحفاء (19/1) السلسلة الضعيفة (1546)]

(84) [ضعیف : الكشف الالهی للطرابلسی (681) اللؤلؤ المرصوع للمشيشی (414)]

”ملک الموت کا سامنا کرنا تلوار کی ہزار (1,000) ضربوں سے زیادہ سخت ہے۔“

سات کاموں سے پہلے اعمال میں جلدی کرو

(86) ﴿بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا أَوْ غِنًا مُطَهِّيًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوْ الدَّجَالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ أَوْ السَّاعَةِ فَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ﴾

”سات کاموں سے پہلے پہلے اعمالِ صالحہ بجالانے میں جلدی کرو؛ کیا تم (سب کچھ) بھلا دینے والے فقر و فاقے، یا سرکش بنا دینے والی تو نگری، یا بگاڑ دینے والی بیماری، یا ضعیف العقل بنا دینے والے بڑھاپے، یا ہلاک کر دینے والی موت یا دجال کے منتظر ہو، پس دجال سب سے برا غائب ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے یا تم قیامت کے منتظر ہو، پس قیامت بہت سخت اور کڑوی چیز ہے۔“

فتویٰ جہنم میں لے جانے کا بھی باعث بن سکتا ہے

(87) ﴿أَجْرُواكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرُواكُمْ عَلَى النَّارِ﴾

”فتویٰ دینے میں تمہارا سب سے زیادہ جرات مند آتش جہنم میں جانے میں بھی تم میں سب سے زیادہ جرات مند ہے (مراد یہ ہے کہ فتویٰ دینے میں احتیاط کرنی چاہیے؛ جلد بازی سے اجتناب کرنا چاہیے؛ مبادا کہ بلا تحقیق کوئی ایسا فاط فتویٰ صادر ہو جائے جو جہنم میں لے جانے کا موجب بن جائے)۔“

(85) [ضعیف جدا : ترتیب الموضوعات لذہبی (1071) الموضوعات لابن الحوزی

[(220/3)]

(86) [ضعیف : ذخیرۃ الحفاظ لابن طاہر (2313/2) السلسلۃ الضعیفہ (1666)]

(87) [ضعیف : السلسلۃ الضعیفہ (1814)]

مومن کی فراست سے بچو

(88) ﴿ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ﴾

”مومن کی فراست (تیز فہمی و دانائی) سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔“

دنیاوی عیش و عشرت کیلئے مال جمع کرنے والا بے عقل ہے

(89) ﴿ الدُّنْيَا دَارٌ مِّنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالٌ مِّنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَّا عَقْلَ لَهُ ﴾

”دنیا ایسے شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں اور ایسے شخص کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں اور اس کے لیے وہی شخص (مال و متاع) جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں۔“

کھانے کے آخر میں پانی پینے کی ممانعت

(90) ﴿ لَا تَجْعَلُوا آخِرَ طَعَامِكُمْ مَّاءَ ﴾

”پانی کو اپنے کھانے کی آخری چیز مت بناؤ۔“

دلوں کے زنگ کا علاج

(91) ﴿ إِنَّ لِلْقُلُوبِ ضُدًّا كَصَدِّهِ الْحَدِيدِ وَجِلَاتُهَا الْإِسْتِغْفَارُ ﴾

”لوہے کی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے اور ان کا علاج استغفار ہے۔“

(88) [ضعیف : تنزیہ الشریعة للکثانی (305/2) الموضوعات للصفحانی (74)]

(89) [ضعیف جدا : الأحادیث التي لا أصل لها في الاحیاء للسبکی (344) تذکرة

الموضوعات للفتی (174)]

(90) [اس کی کوئی اصل نہیں۔ السلسلة الضعیفة (2096)]

(91) [موضوع : ذخیرة الحفاظ (1978/2) السلسلة الضعیفة (2242)]

جہاد اصغر سے جہاد کبر کی طرف

(92) ﴿رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ﴾
 ”ہم جہاد اصغر سے جہاد کبر کی طرف لوٹے ہیں۔“

بلاوجہ چھوڑے گئے ایک روزے کی قضاء کبھی نہیں دی جاسکتی

(93) ﴿مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ، لَمْ يَقْضِ صِيَامَ النَّهْرِ كُلَّهُ وَإِنْ صَامَهُ﴾

”جس نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کسی رخصت و اجازت کے بغیر رمضان کے کسی دن کا روزہ چھوڑا تو ساری زندگی کے روزے بھی اس کی قضا نہیں بن سکتے اگر وہ یہ روزے رکھ بھی لے۔“

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جنت میں داخل ہونے کا انداز

(94) ﴿إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوًا﴾
 ”بے شک حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنت میں پیٹھ کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوں گے۔“

طلاق اللہ تعالیٰ کی مبعوض ترین چیز

(95) ﴿أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ﴾

(92) [اس کی کوئی اصل نہیں۔ الأسرار المرفوعة (211) تذكرة الموضوعات للفتى (191)

شيخ الباني نے اسے منکر کہا ہے۔ السلسلة الضعيفة (478)]

(93) [ضعيف : تنزيه الشريعة (148/2) الترغيب والترهيب (74/2)]

(94) [موضوع : المنار المنيف لابن القيم (306) الفوائد المجموعة للشوكانى (1184)]

”حلال اشیاء میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے۔“

نبی ﷺ کی مدینہ تشریف آوری پر عورتوں اور بچوں کے اشعار

(96) ﴿لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ جَعَلَ النِّسَاءَ وَالصَّبِيَّانَ وَالْوَالِدَاتُ يَقُولُونَ :

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا

أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا مِنْ نَبِيَّاتِ الْوَدَاعِ

مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعٍ جَنَّتْ بِالْأَمْرِ الْمَطَاعِ

”جب نبی کریم ﷺ مدینہ تشریف لائے تو خواتین، بچے اور غلام یہ اشعار پڑھنا

شروع ہو گئے:

ہم پر چودہویں کا چاند طلوع ہوا ہے، ہم پر شکر واجب ہے۔

اے جنوب کی پہاڑیوں کی جانب سے ہم میں بھیجے جانے والے!

تو ایسا حکم لے کر آیا ہے جس کی اطاعت واجب ہے۔“

حسد نیکوں کو کھا جاتا ہے

(97) ﴿إِنَّا كُفْرًا وَالْحَسَدُ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ

الْحَطَبَ﴾

”حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ

لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔“

(95) [ضعيف : العلل المتناهية لابن الحوزي (1056/2) الذخيرة (23/1)]

(96) [ضعيف : احاديث القصاص لابن تيمية (17) تذكرة الموضوعات (196)]

(97) [ضعيف : التاريخ الكبير (272/1) مختصر سنن أبي داود للمنذرى (226/7)]

حکمرانوں کے ہاتھوں ملنے والی سزا درحقیقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے

(98) ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، مَالِكُ الْمُلُوكِ، مَلِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِي، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسُّخْطِ وَالنَّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فَلَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنْ أَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ أَكْفَكُم مَلُوكَكُمْ﴾

”بلاشبہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں (میں ہی) بادشاہوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں اور یقیناً جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دل ان پر شفقت و رحمت اور نرمی کے ساتھ پھیر دیتا ہوں (یعنی حکمرانوں کے دل رعایا کے لیے نرم کر دیتا ہوں) اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دل ان پر ناراضگی و انتقام کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، پھر وہ انہیں (یعنی میرے نافرمانوں کو) برا عذاب چکھاتے ہیں۔ لہذا اپنے نفسوں کو بادشاہوں پر بددعائیں کرنے میں مشغول نہ رکھو بلکہ اپنے آپ کو ذکر و عبادت میں مشغول کرو، میں تمہارے بادشاہوں کو تم (پر ظلم و زیادتی) سے روک دوں گا۔“

نو مولود کے کان میں اذان و اقامت

(99) ﴿الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ﴾

”نو مولود بچے کے کان میں اذان و اقامت کہتا۔“

دانائی کا زیادہ مستحق کون؟

(100) ﴿ الْحِكْمَةُ ضَالَّةٌ كُلُّ حَكِيمٍ فَإِذَا وَجَدَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا ﴾
 ”دانائی ہر حکیم کی گمشدہ چیز ہے جب وہ اسے پالیتا ہے تو وہی اس کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔“

جمع و توثیق: شیخ احسان بن محمد العیسیٰ (تلمیذ البانی)

ترجمہ و تقدیم: حافظ عمران ایوب لاہوری

(99) [ضعیف جدا: بیان الوهم لابن القطان (594/4) المحروحين لابن حبان

(128/2) السلسلة الضعيفة (494/1)]

(100) [ضعیف: المتناهی لابن العوزی (96/1) سنن الترمذی (51/5)]

مطبوعات فقہ الحدیث پبلیکیشنز

اپنی زندگی کو طہارت و پاکیزگی کا عملی نمونہ بنانے کے لیے یہ کتاب پڑھیں۔	طہارت کی کتاب
اپنی ہماروں کو سنسنوں میں طریقی نبوی کے مطابق درجہ جویت تک پہنچانے کے لیے یہ کتاب پڑھیں۔	نماز کی کتاب
اپنے اسواہ کی پاکیزگی اور ان کی تقسیم کا صحیح مصرف جاننے کے لیے یہ کتاب پڑھیں۔	زکوٰۃ کی کتاب
ماورضان کی برکات کو کا حتمی لینے کے لیے یہ کتاب پڑھیں۔	روزوں کی کتاب
حج و عمرہ جیسی عظیم عبادت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ کتاب پڑھیں۔	حج و عمرہ کی کتاب
اپنے اقرباء کی آخری ملاقات کو بدعات کے کانٹوں سے بچانے کے لیے یہ کتاب پڑھیں۔	جنازے کی کتاب
غور و فکر سے روزنامی زندگی گزارنے کے لیے یہ کتاب پڑھیں۔	فلاح کی کتاب
اپنے گھروں کو چاہی سے بچانے کے لیے یہ کتاب پڑھیں۔	طلاق کی کتاب
دور حاضر میں پیش آمدہ جدید ازدواجی مسائل جاننے کے لیے یہ کتاب پڑھیں۔	تراویح و نوافل
رہنما تصاویر کی مدد سے طریقہ حج و عمرہ دیکھنے کے لیے یہ کتاب پڑھیں۔	سنسن عمرہ (پاک سائز)
عوام میں مشہور ضعیف احادیث کی پہچان کے لیے یہ کتاب پڑھیں۔	100 مشہور ضعیف احادیث
جنت کی راہ پانے کے لیے یہ کتاب پڑھیں۔	جنت کی تعبیریں
قرآنی حقیقہ عمرہ و داغہ و حرمین اور رولود کی خوشی کو سنسنوں بنانے کے لیے یہ کتاب پڑھیں۔	پانچ اہم دینی مسائل
اسلامی طرز زندگی سے مطابقت ہادائل و باحاملہ فقہی مسائل و احکام جاننے کے لیے یہ کتاب پڑھیں۔	فقہ الحدیث (شرح الدرر السید)

”فقہ الحدیث پبلیکیشنز“ خالص دینی علم و تحقیق اور دنیا بھر میں اس کی اشاعت اس ادارے کا بنیادی مقصد ہے۔ جس کی تکمیل کے لیے اپنے قیام کے روزِ اوّل سے سرگرم ہے۔ اس کی شائع کردہ کتب لوگوں کو اصلاح عقیدہ و اصلاح عمل کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں جس سے ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل میں مدد ملتی ہے۔ بے شمار لوگ ان کتب کے مطالعہ سے مستفید ہو کر اپنی زندگیوں کو اسوۂ محمدی کے مطابق بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ان کتب لوگ اپنی ملی تعلیمی دور کرتے ہیں۔ اس لٹریچر کو خود پڑھنے دوسروں کو پڑھانے اور اسے گھر گھر پہنچا کر ادارے کے مقصدِ تعمیر اور فائدہ دہندہ دعوت و تبلیغ میں شرکت کیجئے۔

فقیہ الحدیث پبلیکیشنز لاہور

0300-4206199

Email: Fiqhulhadith@yahoo.com